

BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL.
CAMP COURT ABBOTTABAD

Service Appeal No. 615/2016

Date of Institution... 08.06.2016

Date of decision... 19.04.2018

Mst. Haseen Shaheen PST GGPS Ghulamabad Tehsil and Distrcit Haripur c/o Rajput Nelaam Ghar near Silkway Plaza, G.T Road, Tehsil & District Haripur.

... (Appellant)

Versus

1. The District Education Officer (Female) haripur and 1 other.
... (Respondents)

Malik Imran Ali,
Advocate

... For appellant.

Mr. Usman Ghani,
District Attorney

... For respondents.

MR. NIAZ MUHAMMAD KHAN, ... CHAIRMAN
MR. MUHAMMAD HAMID MUGHAL, ... MEMBER

JUDGMENT

NIAZ MUHAMMAD KHAN. CHAIRMAN: Arguments of the learned counsel for the parties heard and record perused.

FACTS

2. The appellant was compulsorily retired on 19.01.2016 against which she filed departmental on 16.02.2016 which was not responded and thereafter, she filed the present service appeal on 08.06.2016.

ARGUMENTS

3. The learned counsel for the appellant argued that the appellant was transferred from Kahaka to Awan Mohra on 08.11.2012 and then temporarily adjusted at Choar

Sharif on 07.11.2013. That on 23.09.2014 the temporary order was withdrawn and the appellant reported back at Awan Mora. That she reported at Awan Mohra on 25.09.2014 and performed her duty till 05.09.2015. That on the verbal direction of one Shaista ADEO on 06.02.2015 she joined her duty at Ghulam Abad where she reported for duty and had been performing her duty. Then suddenly her pay was stopped in August 2015 for which she moved some applications to the concerned authority and then filed a Writ Petition before the Worthy Peshawar High Court Peshawar but during the pendency of the Writ Petition the impugned order was passed and the Peshawar High Court treated that Writ Petition as departmental appeal and sent it to departmental appellate authority for decision in accordance with law and rules. That the appellant never remained absent. That the whole proceedings were the result of personal grudges with the appellant on the basis of some complaint moved by the appellant against one responsible officer of the department. That she was not given any charge sheet or statement of allegation. That she was not informed about any inquiry proceedings. That she was not afforded personal hearing. That the whole proceedings were illegal.

4. On the other hand, the learned District Attorney argued that the appellant remained absent from Awan Mohra and when her temporary order was cancelled from Choar Sharif, she did not report back to Awan Mohra. That her duty at Ghulam Abad was also illegal. That proper charge sheet was served alongwith statement of allegations. That proper inquiry was conducted. That she was served with final show cause notice which she duly replied and then penalty was imposed on her in accordance with rules. That the charge of misconduct and absence as leveled in the charge sheet were duly proved and she was rightly compulsorily retired from service. He further argued that it was proved on record that the appellant was duly served for

her appearance before inquiry committee and the notice in this regard was also annexed with the inquiry report. That the appellant also did not appear for personal hearing despite repeated services and reminders.

CONCLUSION.


5. Without touching the merits of the appeal, if we go through the report of the inquiry committee, no findings have been given and only recommended proceedings under Khyber Pakhtunkhwa Government Servants (E&D) Rules 2011. Before this recommendation the inquiry committee has not touched the merits of the case and opined that since the appellant despite service did not appear before the inquiry committee, therefore, it seemed that she was guilty. In the final show cause notice, the authority herself has written that the inquiry committee recommended the disciplinary proceedings against the appellant. This clearly suggests that the enquiry committee did not hold the appellant as guilty rather recommended proper proceedings under the relevant rules. It is beyond understanding that what did enquiry committee meant from this. The rules on the subject are that whenever after service the delinquent officer fails to appear before the inquiry officer/committee, the inquiry officer/committee is to proceed ex-parte and after receiving ex-parte evidence is to decide the matter under Sub Rule-2 of Rule-11 of the Khyber Pakhtunkhwa Government Servants (E&D) Rules, 2011. It appeared that the inquiry committee circulated some questionnaires to the officer of the department then it was incumbent upon the inquiry officer to have ordered ex-parte proceedings and then should have decided the matter on the basis of questionnaire and other materials available on record. The inquiry committee committed mistake by not following this procedure and then suggested to the authority for initiation of disciplinary proceedings. Disciplinary proceedings were already initiated by the authority. If this mistake was committed by the inquiry committee then

the authority should have remanded the inquiry back to the committee for ex-parte proceedings and deciding the same in accordance with law. By not doing so the spirit of the disciplinary rules have not been followed. Secondly no copy of the inquiry report was annexed with the final show cause notice and the appellant was prejudiced in her defence by not supplying the copy of the inquiry report to her. Even otherwise as observed above there was nothing in the inquiry report against the appellant except that she was served and did not appear before the enquiry committee.

6. As a sequel of the above discussion this Tribunal is of the view that the whole proceedings were illegal. The impugned order is set aside and the appellant is reinstated in service. The department is however at liberty to hold denovo proceedings in accordance with law within a period of 90 days from the receipt of this judgment. The issue of her back benefits shall be subject to the final outcome of the denovo proceedings, if any, and rule on the subject. Parties are left to bear their own costs. File be consigned to the record room.



(Muhammad Hamid Mughal)
Member



(Niaz Muhammad Khan)
Chairman
Camp Court, A/Abad


ANNOUNCED

19.04.2018

20.03.2018

Appellant alongwith counsel and Mr. Usman Ghani, District Attorney alongwith Mst. Nagina Bibi, ADO for the respondents present. Counsel for the appellant seeks adjournment.. To come up for arguments on 19.04.2018 before D.B at camp court, Abbottabad.


Member



Chairman
Camp court, A/Abad

19.04.2018

Counsel for the appellant and Mr. Usman Ghani, District Attorney alongwith Mst. Nagina Bibi, ADO and Saima Raza, ADO for the respondents present. Arguments heard and record perused.

This appeal is accepted as per our detailed judgment of today. Parties are left to bear their own costs. File be consigned to the record room.


Member


Chairman

ANNOUNCED
19.04.2018

25.05.2017


Since tour programme to camp court, Abbottabad for the month of May, 2017 has been cancelled by the Worthy Chairman, therefore, to come up for the same on 22.11.2017 at camp court, Abbottabad. Notices be issued to the parties for the date fixed accordingly


Registrar

22.11.2017

Appellant with counsel and Mr. Kabeerullah Khattak, Addl. AG alongwith Mst. Saima Raza, ADO for the respondents present. Rejoinder submitted. Counsel for the appellant seeks adjournment. To come up for arguments on 18.01.2018 before the D.B at camp, Abbottabad.



Member


Chairman
Camp Court, A/Abad.

18.01.2018

Counsel for the appellant and Mr. Usman Ghani, District Attorney alongwith Mst. Saima Raza, ADO for the respondents present. Counsel for the appellant submitted certain documents which is placed on file. He requested for adjournment. Adjourned. To come up for arguments on 20.3.2018 before the D.B at camp court, Abbottabad.



Member


Chairman
Camp Court, A/Abad

615/16

25.11.2016

Clerk of counsel for the appellant and Mst. Saima ADEO alongwith Mst. Bushra Bibi, Government Pleader for official respondents No. 1 & 2 present. Requested for adjournment. To come up for written reply/comments on 16.02.2017 at camp court, Abbottabad.


Chairman
Camp Court, A/Abad

16.02.2017

Appellant with counsel present and fresh Wakalatnama submitted. Jehangir Khan, Assistant alongwith Mr. Muhammad Siddique Sr.GP for the respondents present. Written reply submitted. The appeal is assigned to D.B for rejoinder and final hearing for 17.05.2017 at camp court, Abbottabad.


MEMBER
Camp Court, A/Abad


22.06.2016

Counsel for the appellant present. Learned counsel for the appellant argued that the appellant was serving as PST when subjected to enquiry on the allegations of absence and other charges compulsorily retired from service vide impugned order dated 19.01.2016 where-against she preferred departmental appeal on 16.02.2016 which was not responded and hence the instant service appeal on 08.06.2016.

That the allegations attributed to the appellant are false. That no enquiry in the manners prescribed by law was conducted and appellant not associated with the same and as such the impugned order is against facts and law.


Points urged need consideration. Admit. Subject to deposit of security and process fee notices be issued to the respondents. To come up for written reply/comments on 22.09.2016 before S.B at camp court, Abbottabad.

Amount Deposited
Security & Process Fee


Chairman
Camp court, A/Abad,

22.09.2016



None for the appellant present. Mr.Umar Iqbal, ADO alongwith Mr. Muhammad Siddique Sr.GP for the official respondents No. 1 & 2 present. Requested for adjournment. None present for private respondent No. 3 despite service. Proceeded ex-parte. To come up for written reply/comments of official respondents No. 1&2 on 25.11.2016 before S.B at camp court, Abbottabad.


Chairman
Camp court, A/Abad

Form- A
FORM OF ORDER SHEET

Court of _____

Case No. 615/2016

S.No.	Date of order proceedings	Order or other proceedings with signature of judge or Magistrate
1	2	3
1	08/06/2016	<p>The appeal of Mst. Haseena Shaheen presented today by Mr. Noumanullah Malik Advocate may be entered in the Institution Register and put up to the Worthy Chairman for proper order please.</p> <p> REGISTRAR 8/6/16</p>
2-	10-6-16	<p>This case is entrusted to Touring S. Bench at A.Abad for preliminary hearing to be put up there on. <u>22-6-2016</u>.</p> <p> CHAIRMAN</p>

BEFORE THE KPK SERVICE TRIBUNAL PESHAWAR.

Appeal No. 615/2016

Haseena Shaheen

Vs The DEO(F) and another

SERVICE APPEAL

INDEX

Sr #	Description of documents	Annexure	Pages
1	Memorandum of appeal along with affidavit		1-13
2	The copies of transfer order No. 2088-93 dated 08/11/2012 and order No. 879-84 dated 07/11/2013	A & A1	14-15
3	Attendance report of charge, relieving chit of GGPS Chohar Sharif and Log book of GGPS Chohar sharif.	B, B-1 & B-2	16-18
4	Copy of application of Head teacher GGPS Ghulamabad.	C	19
5	Copy of charge report.	D	20
6	Copy of complaint along with letter.	E	21-25
7	Gowshawara of GGPS Awan Mohra for the month of May, 2014.	F	26
8	Copy of application for release of salary of appellant.	G	27-28
9	Copy of form containing release of salary of appellant.	H	29
10	Copy of the show notice Endst No. 6092-93 /DEO (F) Haripur / Estb; Pry / Discpl. Action, dated 16/06/2015.	I	30
11	Copy of applications for leave and medical reports and other attached documents.	J	31-44
12	Copy of show cause notice No. 7781-85/ DEO(F). Haripur / Estb; Pry/Discp.Act dated 10-08-2015 and reply of appellant and reminder of show cause notice No. 7775-DF dated 10-08-2015.	K	45-47
13	The copy of Writ petition No. 1094-A/2015 filed at Peshawar High court Abbottabad Bench on 16.11.2015	L	48-53
14	Copies of application for leave along medical reports as well as the impugned order of compulsory retirement dated 19.01.2016.	M & M-1	54-56
15	Copy of application for copies dated	N	57

	15/12/2015		
16	Copy of the application under Right to Information Act	O	58
17	Attested copy of the order of Peshawar High court Abbottabad Bench in writ petition No. 1094-A/2015 dated 28.03.2016	P	59-64
18	copy of departmental appeal and postal receipt.	Q	65-68
19	The copy of charge report, log book, goshawara for the month of Feb, March, April & May GGPS Ghulamabad.	R	69-74
20	Vakalatnama		75

Dated: 8/6/2016

Huseena Shaheen

APPELLANT
(Haseena Shaheen)

Through counsel

Noumanullah Malik

Noumanullah Malik
Advocate High court
At Haripur.

Malik Imran Ali

Malik Imran Ali
Advocate High court
At Haripur.

BEFORE THE KPK SERVICE TRIBUNAL PESHAWAR.


Appeal No. 615/2016

Khyber Pakhtunkhwa
Service TribunalDiary No. 600Dated 8-6-2016

Haseena Shaheen PST GGPS Ghulamabad Tehsil & District Haripur
c/o Rajput Nelaam Ghar near Silkway Plaza, G.T Road, Tehsil &
District Haripur.

.....APPELLANT

Versus

1.  The District Education officer (female)
Haripur.
2. The Director Elementary & Secondary Education Khyber
Pakhtunkhwa Peshawar.
3. Azhara Afridi ASDEO (F) Haripur.

.....RESPONDENTS

**SERVICE APPEAL UNDER SECTION 4 OF KPK SERVICE
TRIBUNAL ACT, 1974 AGAINST THE ORDER OF RESPONDENT
NO. 1 VIDE OFFICE ORDER 446-54 DATED 19/01/2016
WHEREBY THE APPELLANT WAS COMPULSOARILY RETIRED
FROM SERVICE WITHOUT ANY OPPORTUNITY OF PERSONAL
HEARING AND WITHOUT PROVIDING ANY FINDINGS OF
INQUIRY CONDUCTED UNDER THE GUISE OF EX-PARTEE
ACTION.**

PRAYER

**on acceptance of instant service appeal the
impugned order of respondent No. 1 vide office
order 446-5 dated 19/01/2016 whereby the Appellant
was compulsorily retired from service may
graciously be set aside and the Appellant be
reinstated on the post with full back benefits.**

Filed to-day

Registrar

8/6/2016

Respectfully Sheweth;

1. That the Appellant has been serving from last 27 years in Education Department and was posted as PST teacher at Government Girls Primary School Ghulamabad Tehsil & District Haripur at the time of impugned order.
2. That the appellant was transferred from GGPS KaKa to GGPS Awan Mohra vide order No. 2088-93 dated 08/11/2012 and later vide order No. 879-84 dated 07/11/2013 she was temporarily adjusted at GGPS Chohar Sharif. (The copies of the order No. 2088-93 dated 08/11/2012 and order No. 879-84 dated 07/11/2013 are annexed as "**A & A1** ")
3. That the relieving chit of appellant Govt. Girls Primary School Chohar sharif where she relieved of charge vide order No. 3664-67 on 25.09.2014 at afternoon and she took charge under same order in GGPS Awan Mohra on 25.09.2014. (Attendance report of charge, relieving chit of GGPS Chohar Sharif and Log book of GGPS Chohar sharif are filed as "**B, B1-and B2**")
4. That the Head teacher of GGPS Ghulamabad through application to DEO (female) Haripur requested for another teacher to be posted at GGPS Ghulamabad due to need of strength of school and the appellant was adjusted at GGPS Ghulamabad on the order ADO circle. (Copy of application of Head teacher GGPS Ghulamabad is annexed as "**C**").

5. That on the direction of ADO Circle the appellant took charge on 06.02.2015 at GGPS Ghulamabad. (Copy of charge report is annexed as "D").

6. That the appellant filed a complaint against respondent No. 3 the then DEO(F) Haripur for her corruption and mal practices on 15.02.2014 before Director Anti Corruption upon which the Section Officer (Complaint) Govt. of KPK Elementary & Secondary Education Department to Director E&SE KPK Peshawar for intimation and necessary action vide No. SO (Complaint) E&SED/KPK/1-7/2014/N. Moalma Haseena Shaheen dated Peshawar the December 15th 2014. (Copy of complaint along with letter is filed as "E").

7. That in retaliation to the complaint filed against the respondent No. 3 the appellant was transferred many times from one station to another. The transfer to GGPS Awan Mohra where the PST post does not exist, the respondent No. 3 directed the appellant to her perform duties at GGPS Ghulamabad whereas the Head teacher of the said school was stopped from taking sign on the attendance of appellant on school register, depriving appellant from her valuable rights. (Gowshawara of GGPS Awan Mohra for the month of May, 2014 is filed as "F").

8. That the salary of appellant for the month of June, July, 8 October 2015 was stopped due to unknown reasons whereby appellant submitted application for release of her

salary on 11.08.2015 to respondent No. 1, the endorsement of SDO is already on application. (Copy of application for release of salary of appellant is annexed as "G").

9. That on the application of appellant the outstanding salary of appellant was released for two months, it is pertinent to mention that the appellant is shown as posted at GGPS Ghulamabad at the form of release of salary. (Copy of form containing release of salary of appellant is annexed as "H").
10. That on 10/08/2015 the appellant was served with a show cause notice in which the allegations leveled against appellant was that appellant was transferred to GGPS Awan Mohra on 08/11/2012 whereas the appellant was serving at GGPS Ghulamabad and second allegation was the appellant remained absent from service from 01/09/2014 till 24/09/2014 for 24 days and from 21/01/2015 till 05/02/2015 for 16 days. (Copy of the show notice Endst No. 6092-93 /DEO (F) Haripur / Estb; Pry / Discpl. Action, dated 16/06/2015 is appended as "I").
11. That the appellant in her reply to show cause notice explained on the strength of record that the appellant was temporarily adjusted at GGPS Chohar Sharif till the further order vide order No. 879-80 dated 07/04/2013 and later, on the application of head teacher GGPS Ghulamabad the

appellant was adjusted on the order of ADO circle on 06/02/2015 at GGPS Ghulambad. The ADO circle in her annual school inspection report mentioned the name of appellant in the log book.

12. That on reply to allegation of absent from service the appellant explained that the applicant had submitted applications of leave along with medical reports to respondent. The applications of appellant were on medical basis which could not be rejected under the rules, even otherwise, if the application of appellant was rejected the 40 days absent could be converted into unpaid leave keeping in consideration the length of appellant service which is 27 years. (Copy of applications for leave and medical reports and other attached documents are filed as "J").
13. That the appellant was served with another show cause notice vide No. 7781-85/ DEO(F) Haripur / Estb; Pry/Discp.Act dated 10-08-2015. (Copy of show cause notice No. 7781-85/ DEO(F) Haripur / Estb; Pry/Discp.Act dated 10-08-2015 and reply of appellant is filed as "K").
14. That the salary of appellant was again illegally stopped by the respondents therefore, the appellant was left with no option but to file writ petition No. 1094-A/2015 in Peshawar High court Abbottabad Bench, seeking direction against respondents to release her outstanding salary. (The copy

of Writ petition No. 1094-A/2015 filed at Peshawar High court Abbottabad Bench on 16.11.2015 is annexed as "L").

15. That the appellant was on medical leave from 19.10.2015 to 20.10.2015 for two days during this time the ex-parte inquiry was mala fide conducted against the appellant without affording her opportunity of personal hearing and in consequence whereof the appellant was compulsorily retired vide order No. 446-54 dated 19/01/2016 with effect from 19.01.2016. (Copies of application for leave along medical reports as well as the impugned order of compulsory retirement are annexed as "M & M1").
16. That the appellant filed an application to respondent No. 1 for provision of photocopies of inquiry report and related documents relied upon by inquiry officer on 15/12/2015 but the same was not entertained by the respondent No. 1 and appellant was not provided the required copies. (Copy of application for copies dated 15/12/2015 is annexed as "N").
17. That the appellant has also filed an application under KPK Right to Information Act, 2013 for complete inquiry report compiled by Inquiry Officer Mrs. Samina Mushtaq, check list 2016, annual inspection report of GGPS Awan Mohra, Log Book 2016 Awan Mohra, Gowshawar of GGPS Awan Mohra before DEO(F) Haripur but to till date the appellant

has not been provided the required information. (Copy of the application under Right to Information Act is filed as "O").

18. That during pendency of writ petition the appellant was compulsorily retired from service vide impugned order without releasing the salary of appellant for the months of June, July, October, November, December 2015 and January 2016.
19. That while disposing the writ petition the Hon'ble Peshawar High court has directed the respondent No. 2 to decide the departmental appeal of the appellant at the earliest enabling the appellant to seek remedy available to her under the law in appropriate forum. (Attested copy of the order of Peshawar High court Abbottabad Bench in writ petition No. 1094-A/2015 dated 28.03.2016 is filed as "P").
20. That feeling aggrieved from impugned order, the appellant filed a departmental appeal before respondent No. 2 on 16/02/2016 with a request to set aside the impugned order and to reinstate the appellant with full back benefits (copy of departmental appeal and postal receipt is filed as "Q").
21. That the departmental appeal of appellant has not been decided within the statutory period of 90 days hence, this service appeal inter alia on the following grounds:-

GROUNDS:

- a) That the impugned order of compulsory retirement of appellant is passed in sheer violation of law and circumstances of case hence, liable to be set aside.
- b) That the appellant is compulsorily retired from service on the baseless allegations without affording her opportunity of personal hearing and without providing her the findings of inquiry report on personal grudge against appellant and with prejudice and ulterior motives and in negation of constitutional guarantees hence, liable to be set aside.
- c) That the appellant took charge of the post at GGPS Ghulamabad and this fact was also noticed and admitted by the Inquiry officer of inquiry conducted against Azra Afridi the ASDEO (F) circle / respondent No. 3 that the appellant is performing her duties at GGPS Ghulamabad at that time. The appellant in her reply to show cause notice mentioned this fact but the respondent No. 1 while passing the impugned order has totally ignored hence, the same is liable to be discarded. (The copy of charge report is filed as "R").

- d) That the allegations of absent for 40 days from service was clearly explained by the appellant on the strength of record that the appellant was on medical leave during the course but the factum of leave was deliberately ignored by the respondent No. 1 while passing the impugned order hence, not tenable.
- e) That the impugned order lacks any sanctity on the ground that no personal hearing opportunity was afforded to appellant despite request, the appellant was condemned unheard hence, the same is liable to be brushed aside.
- f) That no departmental inquiry was ever conducted before awarding major penalty of compulsory retirement from service of appellant which was mandatory under the law.
- g) That no charge sheet was issued against the appellant with regard to allegations leveled against her.
- h) That the appellant has been serving in the education department from last 27 years and left no stone unturned to raise the literacy rate of the country and at the best performed her duties till the last date of her work but the

respondents without giving her opportunity of hearing, passed the impugned order in a slipshod, cursory and clandestine manner through ex-parte action hence, the same is liable to be set at naught.

- i) That inquiry report and the record relied upon by the inquiry officer was never provided to appellant despite the fact that under the law it was the right of appellant to be provided every evidence to cross examine the same but the inquiry officer while conducting the ex-parte inquiry put the appellant deliberately in darkness and provided no opportunity of personal hearing to appellant, hence the impugned order lacks any legal sanctity and liable to be set aside.
- j) That the stoppage of salary and compulsory retirement of the appellant is a planned conspiracy of the respondent No. 1 with connivance of her blue eyed respondent No. 3 and a misuse of powers has been played against appellant, in order to illegally expel the appellant from education department thus deprived the appellant from earning bread and butter for her family.

- i) That the respondent No. 1 has passed the impugned order of compulsory retirement of appellant by putting aside all law and service rules hence, the impugned order is liable to be set aside.
- j) That the appellant has wrongly been charged for misconduct and mala fide been compulsorily retired from service as the appellant was serving at GGPS Ghulamabad on the very direction of the ADO circle on the application of Head teacher of GGPS Ghulamabad as well as the allegation with regard to absent from service is also unfounded allegation on appellant which was properly explained the impugned order passed for victimization of appellant hence, not tenable.
- k) That the statutory period of departmental appeal of 90 days has been elapsed and this service appeal is well within time.
- l) That this Hon'ble Tribunal has got jurisdiction to decide this appeal.


It is therefore, respectfully prayed that on acceptance of instant service appeal the impugned order of compulsory retirement of appellant may very graciously be set aside and


appellant may kindly be reinstated on service with full back benefits in the interest of justice. Any other relief this Hon'ble tribunal deems fit and proper may also be granted.

Dated: 8/6/2016

Huseenashaheen
APPELLANT
 (Haseena Shaheen)

Through counsels


 Noumanullah Malik
 Advocate High court
 At Haripur.


 Malik Imran Ali
 Advocate High court
 At Haripur.

Verification:

It is verified that the contents of above memorandum of appeal are true and correct to the best of my knowledge and belief.

Dated: 8/6/2016

Huseenashaheen
APPELLANT
 (Haseena Shaheen)

BEFORE THE KPK SERVICE TRIBUNAL PESHAWAR.

Haseena Shaheen

Vs The DEO(F) and another.

SERVICE APPEAL

AFFIDAVIT

I, Haseena Shaheen PST GGPS Ghulamabad Tehsil & District Haripur c/o Rajput Neelam Ghar near Silkway Plaza, G.T Road, Tehsil & District Haripur the appellant do hereby solemnly affirm and declare on oath that the contents of above tiled memorandum of appeal are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed from this Hon'ble tribunal.

Dated: 8/6/2016

Haseena Shaheen
DEPONENT

ATTESTED
Oath Commissioner
Zafar Khan Advocate
Distt. Court Peshawar

8/6/2016

ANNEX-A (14)

OFFICE OF THE DEPUTY DISTRICT OFFICER (FEMALE) E & S EDUCATION HARIPUR

Mutual Transfer

The following Mutual transfer of PST (female) are hereby ordered on their own pay and grade in the interest of public service with immediate effect:-

S.No	Name of Teacher & School	To	Remarks
01	Haseena Shaheen PST GGPS Kahaka	GGPS Awan Mohra	Vice s.no 2
02	Razia Bagum PST GGPS Awan Mohra	GGPS Kahaka	Vice s.no 1

Note:-Charge Report should be sent to all concerned.
No TA DA is allowed.

DEPUTY DISTRICT OFFICER (FEMALE)
E&S EDUCATION HARIPUR

Endst No'- 2088 - 93

Dated Haripur the 08/11/2012.

Copy to the:-

1. The Executive District Officer E & S Education Haripur.
2. District Education Officer E & S Education Haripur.
3. ADO concerned
4. Head Teacher concerned.
5. Office file.

DEPUTY DISTRICT OFFICER (FEMALE)
E&S EDUCATION HARIPUR

Attested
Huseenashahen

مستند رقم 2088-93 مورخہ 08/11/2012
مبادلہ کے تحت
میرا آرڈر ہے۔

ANNEX-A/13

OFFICE OF THE SUB DIVISIONAL EDUCATION OFFICER (F) HARIPUR

Temporary Arrangement.

Mst. Haseena Shaheen PST B-12 of Govt. Girls Primary School, Awan Mohra is hereby adjusted at GGPS, Chohar Shareef on temporary basis till further order in the interest of public service.

s d -
Sub Divisional Education Officer.
Female Haripur.

Endst: No. 879-821

Dated Haripur the 07/11/2013.

Copy for information to :-

1. The AS: EO (F) Haripur concerned circle.
- 2-3. The IT of GGPS, Awan Mohra and Chohar Shareef.

Ld
Sub Divisional Education Officer.
Female Haripur.

Attested
Huseena Shaheen

رہنما سہیل
میں جس وقت کہیں گورنمنٹ گزٹ میں انٹرن سہیل کو
شہرت سے آرڈر نمبر 3664-67 تحت اہل اہل

تاریخ 25-9-2014ء کو جاری کیا گیا ہے

لہذا اطلاع کے لیے فرم ہے

العارض

عین لائسنس ہوگی

نائب منیجر، جسٹس ایس پی آر، گورنمنٹ گزٹ، انٹرن سہیل انوار

تاریخ

25-9-2014ء

Attested
Huseenashahcen

حاضری رپورٹ

سینئر سپاہی حسینہ شاہین PST 12 صدر ایف پی پی ایم پی ایم

گورنمنٹ پرائمری اسکول، ایف پی پی ایم پی ایم، کئی کھمبلی، آزاد

سپر 67-3664، کئی کھمبلی، ایف پی پی ایم پی ایم

المحکمہ، حیدرآباد، سندھ

تاریخ: 25-9-2014

حاضری رپورٹ

حسینہ شاہین، سینئر سپاہی، PST 12

گورنمنٹ پرائمری اسکول، ایف پی پی ایم پی ایم

25-9-2014



Attested
Huseena shakeen

لاگ بک (حصہ دوم)

رپورٹ کی روشنی میں سکول اتھارٹی نے جو کارروائی کی

راشے رپورٹ معاہدہ

اردو لٹروف سٹیٹس آف دھوی کلاس
بنا سکتے ہیں قوافل آوازوں
کی حیثیت ہے
گنتی ہر اور کی سنگھ سے
لوگوں گنتی سے بھی واقف ہیں

اردو

ریاضی

Attested
Huseenashahen

سکول مجموعی طور پر صاف ستھرا تھا

پشورہ درس دینا سب سے
مہربان عمل ہے ایوارڈ سارا
Maintain تھا مگر خوبصورت

پہل
ریاضی

تدریس جارہے تھے
سکول میں قلم و سلیب
پشورہ کو عزیز درون کارہ رکھنے
کی تاکید کی گئی

Suniga
A.S.D. ESSE
Circle Haripur

لاگ بیک (حصہ دوم)

رپورٹ کی روشنی میں سکول امتحان کے جو کارروائی کی

برائے رپورٹ معائنہ

What is your name
What is your teacher's name?

عبدالخالق

Who is greater?
کون سے بڑے اور اعتماد سے بڑے

:- اوپر ادنیٰ
کلاس انبار جس سے شاکہ

Capital اور small کے مختلف
Letters سے واضح ہیں
مختلف آوازوں سے بننے والی
حروف کے نام آدھی کلاس
بنائے

لاگ ایک (حصہ دوم)

رپورٹ کی ریشمی میں سکول اختتامی
نے جو کاروازی کی

رائے رپورٹ معاہدہ

حتمی

پروگرام اعلیٰ

مجلس روزانہ میں شمولیت اور

رنگوں کی مختلف اقسام کے
بائے میں مختلف سیمان کے
رنگت اور فوٹ اور سبز لور کے
رنگ بنا سکے ہیں

رنگت

Attested
Huseenashaheen

فوت اور اعداد کی سیمان کے
Mississippi رنگت ہیں
جمع سوال کر سکے ہیں

رنگت

رنگت کر سکے ہیں سوال
کے جوابات کے سکے ہیں

رنگت

لاگ بک (حصہ دوم)

رپورٹ کی روشنی میں سکول اختیاراتی نے جو کارروائی کی	رائے / رپورٹ معائنہ	سکول اختیاراتی کارروائی کی
	- ادو کس - کلر میں انچارج، ٹوبہ، ہریوں کی ریڈنگ کر سکتے ہیں الفاظ کے معنی اور مشعل الفاظ بیان کر سکتے ہیں اور وہ بار بار پتہ دیتے ہیں	انگلش
	ریڈنگ پورا آدھی گھنٹوں کی سوالات کے جوابات گھنٹوں کی الفاظ کے معنی بیان کر سکتے ہیں	اردو
	اگلے عدد - ۷ بجھلہ عدد اور درجہ عدد سے واقف ہیں ۲۶ پتہ بنا سکتے ہیں	ریاضی
	سوچنے سوالات کے جوابات گھنٹوں کی	معلومات

Handwritten text in the top right corner.

Handwritten text at the top of the main column.

Handwritten text in the upper part of the main column.

Handwritten text on the left margin, top.

Handwritten text on the right margin, top.

Handwritten text in the middle part of the main column.

Handwritten text on the left margin, middle.

Small handwritten text in the middle of the main column.

Handwritten text in the lower middle part of the main column.

Handwritten text on the left margin, lower middle.

Huseemashkeen

Handwritten text on the right margin, lower middle.

Handwritten text in the lower part of the main column.

Handwritten text on the left margin, lower.

Attested

Small handwritten text in the lower part of the main column.

Handwritten text in the lower part of the main column.

Handwritten text in the lower part of the main column.

Handwritten text on the left margin, bottom.

Handwritten text on the right margin, bottom.

Handwritten text in the lower part of the main column.

Small handwritten text in the lower part of the main column.

Handwritten text at the bottom of the main column.

Handwritten text in the bottom right corner.

Large handwritten signature or name at the bottom of the page.

(مختصر) فن

پندرہویں باب

پندرہویں باب

Define matter

Matter is the function of

Hearts?

Matter are the function of roots of hearts.

پندرہویں باب

پندرہویں باب

پندرہویں باب

پندرہویں باب

پندرہویں باب

پندرہویں باب

پندرہویں باب

پندرہویں باب

پندرہویں باب

پندرہویں باب

پندرہویں باب

انہوں نے میری طرف سے
کئی سوالات کیے ہیں
جو میں نے جواب دیے ہیں

میں نے ان کے جواب دیے ہیں

انہوں نے میری طرف سے
کئی سوالات کیے ہیں
جو میں نے جواب دیے ہیں

انہوں نے میری طرف سے
کئی سوالات کیے ہیں
جو میں نے جواب دیے ہیں

میں نے ان کے جواب دیے ہیں

انہوں نے میری طرف سے
کئی سوالات کیے ہیں
جو میں نے جواب دیے ہیں

میں نے ان کے جواب دیے ہیں

انہوں نے میری طرف سے
کئی سوالات کیے ہیں
جو میں نے جواب دیے ہیں

میں نے ان کے جواب دیے ہیں

انہوں نے میری طرف سے
کئی سوالات کیے ہیں
جو میں نے جواب دیے ہیں

میں نے ان کے جواب دیے ہیں

انہوں نے میری طرف سے
کئی سوالات کیے ہیں
جو میں نے جواب دیے ہیں

میں نے ان کے جواب دیے ہیں

انہوں نے میری طرف سے
کئی سوالات کیے ہیں
جو میں نے جواب دیے ہیں

میں نے ان کے جواب دیے ہیں

۱۱۶

۱۱۶

۱۱۶

Museenashahen
Attested

۱۱۶

۱۱۶

لاگ بک (حصہ دوم)

رپورٹ کی روشنی میں سکول اخلاقی
نے جو کارروائی کی

راغ / رپورٹ معائنہ

سائنس

عبارت
قدر

2 عدد طرے، علمہ ہر آئینہ -
2 مائے زوہر، بجلی نہیں ہے
بالی کی بیرونی موجود ہے

ظہیر
حالت

مکتبہ
مکتبہ سائنس اکیڈمی
حسین حجازی

Attested

Huseenashaheen

A Faithful dog سبق

انگلت

کی ریڈنگ کورائی گئی
سوالات کے جوابات کے ساتھ ہیں
سیکنڈ اور ایف ڈی فارم پاس کیا ہے
Essay علم سکول کو لے کر
خود اعتمادی سے تیار کیا

ریاضی

کتاب کثیر اور غیر واجب کر
زادگی کی نگہ اور افسانہ لکھی
کئی روغن اعداد کے سوالات

اسلام

اردو

لاگ بک (حصہ دوم)

رپورٹ کی روشنی میں سکول انتظامی
نے جو کارروائی کی

رپورٹ معائنہ

رپورٹ

گورنمنٹ گھرانہ پرائمری سکول
صفا شریف

سالانہ
معائنہ

18-02-2015 مورخہ

H/PST

نوبین واپس

حاضر
ستاف

SPST

حاضر رہی

PST

تھی

Nursery:- $\frac{12}{20}$

K. 4. 15 + 5 = 20

one:- $\frac{7}{9}$

2nd:- $\frac{3}{5}$

3rd:- $\frac{6}{6}$

4th:- $\frac{2}{2}$

5th:- $\frac{2}{2}$

حاضر
تھی

لاگ بک (حصہ دوم)

رپورٹ کی روشنی میں سکول انچارج
نے جو کارروائی کی

رپورٹ معاہدہ

سالانہ
معائنہ

المحال نام سے کیا نمبر ہے؟
سنت نبوی سے کیا نمبر ہے؟
بچوں کے درست جوابات یہ

استاد صاحب

حاضر
مشافہ

مجموعی طور پر سکول صاف ستھرا

صبر بیکار

Attested

معاہدہ تمام دستاویز درج و درجہ

Huseenashaheen

عید مسجداً تک مگر خوبصورت

نڈر سے کارڈ سے آویزاں


بچے دستاویز کو فریڈ وینٹ جاری

رکھنے کی تاکید ہے

حاضر
کتابت

لاگ بک (حصہ دوم)

رپورٹنگ	راہے / رپورٹ معائنہ	رپورٹ کی روشنی میں سکول اختیاراتی نے جو کارروائی کی
انتہائی	پہلے Reading میں کمزور ہیں چار ٹیوں میں سے دو نے سوالات کے جوابات دیے	
اردو	دو پہلے Reading کر سکتے ہیں الفاظ کے معنی سمجھنے کی ٹیوں نے بیان کیا	
ریاضی	3 ٹیوں نے ریاضی میں صحت کے سوالات حل کیے	
اساتذات	مقررہ نوید رسالت سے کیا مبارک و ٹیوں نے درس جو اب تک	
مبائن	پوچھنے سے تمام سوالات کے جوابات ٹیوں نے دیے	


 Sumaira
 A.S.D.O.E.
 Circle No.

لاگ بیک (حصہ دوم)

رپورٹ کی روشنی میں سکول امتحان کی
نے جو کارروائی کی

رائے / رپورٹ معائنہ

انٹرنل

کو حقیقی طور پر سوالوں کے جوابات

اسلامیات

کھوں نے دیکھے

تفسیر سے کہتے ہیں
بنیادی الحروف تہجی ہیں

حفاظت
علم

اردو

گلوب سے کہا جا رہا ہے

Attested

کھوں نے جوابات دیکھے

Huseenashaheen

ایک بچے کے علاوہ باقی دونے

سائنس

جوانات کے

حفاظت سے

ریاضی

کلر میں اس کا تاج

بھیجا گیا

اسلامیات

سائنس

لاگ بیک (حصہ دوم)

ریپورٹ کی روشنی میں سکول امتحانوں نے جو کاروائیاں کی	راہے / ریپورٹ معائنہ	امتیاز
	<p>دو نئے Reading کم سکے ہیں</p> <p>نئے Words کے Meaning بنا سکے ہیں</p> <p>چوتوں سے درج ذیل سوالات پوچھے گئے</p> <p>پٹو سلطان کون تھا؟</p> <p>اعظم آدوی نے فقیر کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟</p> <p>دونوں نے درست جوابات دیے</p> <p>سبق کی Reading کم سکے ہیں</p> <p>روح اوداد سے واقف ہیں</p> <p>کمر ایشیا کی جمع و تفریق سے واقف ہیں</p>	<p>گنہگار</p> <p>اردو</p> <p>ریاضی</p>

لاگ بیک (حصہ دوم)

رپورٹ کی روشنی میں سکول اخبار کی
نے جو کارروائی کی

رات ۱ رپورٹ معائنہ

سوالات کے جوابات کے
اعلام میں بھی بہتر بات کے

جمع کے سوالات ہونے لگے جو ایک
کے نے درست کیے ایک نے
نہیں کیے

تو صدر کے متعلق سوالات کو
کے دونوں گروہوں نے جوابات دیے

توچھ گئے سوالات کے جوابات
گروہوں نے دیے

جماعت چہارم
مدرسہ

نورین بیگم

اردو

ترجمہ

اساتذہ

سائنس

Attested

Huseenashaheen

ترجمہ

اردو

ترجمہ

لاگ بیک (حصہ دوم)

<p>ریپورٹ کی روشنی میں سکول انٹیمڈیٹ نے جو کارروائی کی</p>	<p>راشیا ریپورٹ معائنہ</p>	<p>سکول انٹیمڈیٹ کی</p>
	<p>واحد کے جمع الفانی کے معانی اور جمع بننا سیکھنے میں حذبوں کے علاوہ باقی سب نے سوالات کی درست جوابات دیے</p> <p>لوگوں کے حصے کے بارے میں پوچھا گیا حذبوں کے علاوہ باقی سب نے جوابات دیے</p> <p>جماعت سوئم</p> <p>گلاس اینج</p> <p>جسیر</p> <p>تجے Reading کم سیکھتے ہیں</p> <p>constable اور constable</p> <p>دھنڑوں کے نام پوچھے گئے اور انہوں نے بتائے</p>	<p>فعالیت</p> <p>عاجز</p> <p>انگلت</p>

لاگ بیک (حصہ دوم)

رپورٹ کی روشنی میں سکول انحصاری
نے جو کارروائی کی

رائے / رپورٹ معائنہ

بچے جنہوں نے نالیج عیب سے
بچے

معلومات
عامہ

معائنہ دوم

ملا کر اس کے نتائج

حسین

Attested
Huseenashabeen

بچے Reading پر سیکھے عیب Words

انگنائی

کے Meaning بتا سکے ہیں، سوالات
کے جوابات سب ٹوٹے ہیں

تختہ ٹھیکہ اور فہم ٹوٹے ہیں
اور لغتوں کے سوالات ٹھیکہ ٹوٹے
انہوں نے عیب حل کیے

ریاضی

عند ٹوٹے کے علاوہ باقی تمام بچے

اردو

اساتذہ کی Reading پر سیکھے عیب

لاگ بیک (حصہ دوم)

پہلی پیمائش
روانگی

راشیا رپورٹ معائنہ

رپورٹ کی روشنی میں سکول امتحان کی
نے جو کارروائی کی

حالت اول اعلیٰ

کلاس ایچ

تیسریں

پہلے و پھلنگ کے ساتھ پڑھ سکتے
ہیں کچھ نئے vowels کی توجہ
رکھتے ہیں صد بچوں کے علاوہ باقی
بچوں نے اس سے پہلے والی چیزوں کے
نام بتائے۔

زنگ

پہلے Reading میں کمزور ہیں۔ صد
بچوں کے علاوہ باقی بچوں نے درست
جواب دیے۔

اردو

تھوڑے عدد اور بڑے عدد کی پہچان
کر سکتے ہیں جمع و تفریق سے بھی
واقف ہیں

ریاضی

لاگ بک (حصہ دوم)

رپورٹ کی روشنی میں سکول امتحان کی
نے جو کارروائی کی

راشہ رپورٹ معائنہ

تعلیمی
حالت

عمارت اسول ادبی

کلاسز انچارج
شعبہ

انگلیش

فردیہ آوازوں کی پہچان کر
سکتے ہیں A سے ج تک اور
کے سکتے ہیں

Attested

Huseenashaheen

اردو

فردیہ اور علامتوں کی پہچان کر
کے ساتھ حروف کی پہچان کر سکتے ہیں
مختلف آوازوں سے بننے والی لفظوں
کا نام بتا سکتے ہیں

گرامر

اسے 9 تک کی گنتی بتا سکتے
ہیں اور اسے گنتی کے اور لفظ
سکتے ہیں

انگلیش

اردو

گرامر

لاگ بک (حصہ دوم)

ریورٹ کی روشنی میں سکول افسران کی نے جو کارروائی کی	رہنما رپورٹ معائنہ	سکول افسران کی
	<p>سالانہ معائنہ گورنمنٹ گولڈ میڈل سکول حقیقہ شہرف</p>	
	<p>HPT = نوید حسین</p>	حافظی سکول
	<p>PST = حسین</p>	
	<p>PST = شہانہ</p>	
	<p>" = نسیم</p>	
	<p>KG = $\frac{11}{15}$</p>	حافظی طالبات
	<p>one = $\frac{6}{7}$</p>	
	<p>2nd = $\frac{6}{6}$</p>	
	<p>3rd = $\frac{2}{2}$</p>	
	<p>4th = $\frac{3}{3}$</p>	
	<p>5th = $\frac{3}{4}$</p>	

تحریر شدہ ڈی۔ ایچ۔ ایف۔ کے ذریعہ 15/05/2019

حزبانہ خانم

میرا سہ فرزند ہے۔ میری بیٹی شہنازہ بیگم کی عمر 10 سال ہے۔

میرے دوسرے دو فرزند ہیں۔ میرے بیٹے محمد علی کی عمر 8 سال ہے۔

میرے تیسرے فرزند ہیں۔ میرے بیٹے محمد علی کی عمر 5 سال ہے۔

میں نے ان کو

میرا

میرا

میرا

میرا

Waseem Shah
Headmaster
Govt. Girls Primary School
Gulshan-e-Abad District

Attested
Huseena shahen

ANNEX - D

20

حاضری رپورٹ

محترم صاحبزادے کی اور صاحبزادی صاحبہ کی سرکاری شناختی کارڈز اور ان کے پرنٹ آؤٹ کی تصاویر

موجود ہیں۔ ان کے نام اور پتے کے ساتھ ساتھ ان کے پرنٹ آؤٹ کی تصاویر بھی

موجود ہیں۔ ان کے نام اور پتے کے ساتھ ساتھ ان کے پرنٹ آؤٹ کی تصاویر بھی

موجود ہیں۔ ان کے نام اور پتے کے ساتھ ساتھ ان کے پرنٹ آؤٹ کی تصاویر بھی

التاریخ

محمد بن نواز شاہ

Wafiq Sultana
Private Tutor
Gani Elms Primary School
Chughtan Road Lahore

6921218

Attested

Huseena shaheen

ANNEX - E . (21)

GOVERNMENT OF KHYBER PAKHTUNKHWA ELEMENTARY & SECONDARY EDUCATION DEPARTMENT

No. SO(Complaint)E&SED/KPK/1-7/2014/N. Moalma Haseena Shaheen
Dated Peshawar the December 15th, 2014

To

The Director,
Elementary & Secondary Education,
Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.

Subject:- APPLICATION/COMPLAINT

I am directed to refer to the subject noted above and to enclose herewith an application/complaint alongwith its enclosure received from Naib Muallama Haseena Shaheen PST (BPS - 12) GGPS, Awaan Moughra, Tehsil & District Haripur addressed to the Secretary E&SE, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar for further necessary action under intimation to this office.

Encs: As Above:

Ends: of even number & date:

(NASRULLAH)
SECTION OFFICER (COMPLAINT)

Copy of the above is forwarded to the:-

Mr. Mukkaram Khan, Deputy Chairman, Chief Minister's Complaint & Redressal Cell, Chief Minister's Secretariat, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar w/r to hjs letter referred to above.

SECTION OFFICER (COMPLAINT)

644
21/1/2015

کپی کے لئے
ڈائری

Sup/ADO
PR Reported

Attested
Huseena Shaheen

جناب عالی!

گذراش خدمت ہے کہ میں معلقہ حسینہ شاہین PST، BPS12 گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول اعوان موہڑہ تحصیل و ضلع ہری پور کے پی کے میں اپنے فرائض منصبی سرانجام دے رہی ہوں، جناب عالی! سب سے پہلے سابقہ آڈٹ آفیسر باسط ضلع ہری پور کے پی کے اور ڈائریکٹر ایجوکیشن پشاور DEO ایس ڈی اور نانہ مدارس ہری پور اور ADO پھر ہالہ سرکل ہری پور سے یہ واضح کیا جائے کہ آڈٹ، پیراجو کہ ADO سرکل اور ڈسٹرکٹ آڈٹ آفیسر نے 28/11/2012 کی میٹنگ کے بعد مرتب کیا ADO نے کس تاریخ کو چھوٹی اور فرضی رپورٹ مرتب کی اور جس کی بناء پر کہہ انگلش میڈیم پرائمری سکول کی 3 معلمات پر 580,834 کی جعلی اور فرضی ریکوری ڈالی گئی، جن میں بھی شامل ہوں، مجھ پر جعلی اور فرضی -/130,593 روپے ڈالے گئے ADO سرکل کی رپورٹ کی تاریخ کی تفصیل پیش کی جائے۔ سب سے پہلے یہ واضح کیا جائے کہ 2010 اور 2011 ان دو سالوں کی غیر حاضریاں پیش کی جائیں۔ اکاؤنٹ آفس ضلع ہری پور کی طرف سے 2 سال کی غیر حاضریوں پر سٹاپ کی جانے والی Monthly Pay stop کا ثبوت 2010 اور 2011 کا پیش کیا جائے، میرے پاس 2010 اور 2011 ان دو سالوں کی حاضریوں کے مکمل ثبوت موجود ہیں، میں 2010 میں نزویہ پرائمری سکول میں پورے سال حاضر تھی، اسی طرح کہہ پرائمری سکول میں بھی پورا سال حاضر تھی، بمطابق سول سرونٹ 1973 ایکٹ کے تحت کیا ADO سرکل نے مجھے کوئی تنبیہ، شوکانوٹس یا Explanation کیلئے مجھے طلب کیا۔ میرے پاس واضح ثبوت موجود ہے کہ ADO سرکل نے 10/11/2011 کو کہہ انگلش پرائمری سکول کا معائنہ کیا، میں دوران معائنہ لڑکیوں کو پڑھانے میں مصروف کار تھی، مصروف ہونے کی وجہ سے رجسٹر معلمین پر مجھ سے حاضری نہیں لگائی جاسکی، جسکا اعتراف ADO سرکل نے رجسٹر معلمین نے 10/11/2011 کے صفحہ پر کیا ہے کہ معلقہ بچوں کو پڑھانے میں مصروف کار تھی، جس کی وجہ سے رجسٹر پر ہاضری نہ لگاسکی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سکول میں حاضر تھی، بمطابق ADO پھر ہالہ سرکل مس اظہرہ آفریدی سکول 2010 اور 2011 کا عرصہ بغیر کسی غیر حاضری کے مجھ پر کیسے ڈالا گیا۔ اپیل کیساتھ فوٹو کاپی ثبوت کے طور پر لف کر رہی ہوں، میں نے 06/06/2013 کو ڈائریکٹر ایجوکیشن پشاور کے آفس میں جعلی فرضی کیس کے بارے میں اپنی اپیل جمع کروائی تھی جس پر تاحال کوئی بھی کارروائی عمل میں نہ لائی گئی۔ اور اسی طرح میں نے 04/11/2013 کو دفتر ہذا DEO زمانہ مدارس ہری پور میں اپیل جمع کروائی تھی، جس پر تاحال کوئی عمل درآمد نہ ہوسکا۔ 16/04/2013 کو پھر دفتر ہذا DEO زمانہ مدارس ہری پور میں اپیل جمع کروائی تھی، جس پر تاحال کوئی عمل درآمد نہ ہوسکا، 28/08/2013 کو میں نے چھوٹی ریکوری کیس کے بارے میں درخواست دی، جس پر SDEO زمانہ مدارس ہری پور نے تاحال اس کا بھی نوٹس نہیں لیا۔ 12/09/2011 کو دفتر ہذا DEO زمانہ مدارس ہری پور میں اپیل جمع کروائی تھی، جس پر بھی تاحال کوئی عمل درآمد نہ ہوسکا۔

ڈائریکٹر ایجوکیشن پشاور SDEO، DEO ہری پور سے اس بات کی وضاحت طلب کی جائے کہ مس اظہرہ آفریدی نے ADO کی حیثیت سے کس تاریخ سے اپنی ملازمت کا آغاز کیا، اور ADO پھر ہالہ سرکل نے سابقہ ADO روبینہ ذہبی صاحبہ کا 2010 کا عرصہ اپنی ملازمت میں کس طرح شامل کر لیا ہے، جبکہ ADO اظہرہ آفریدی نے 2011 کو ADO کی حیثیت سے اپنی ملازمت کا آغاز کیا ہے، ADO مس اظہرہ آفریدی نے 2010 کا جعلی اور فرضی عرصہ اپنی ملازمت میں کیسے شامل کیا ہے، اور مجھ پر کیسے 2010 کا جھوٹا عرصہ ڈالا ہے، جبکہ 2010 میں مس اظہرہ آفریدی نے اپنی ڈیوٹی جوائن ہی نہ کی تھی۔ اتنے بڑے فراڈ اور 420 کی انکوائری کی جائے اور مرتکب افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ (ثبوت کے طور پر فوٹو کاپیاں لف خدمت میں)۔ 2010 کے آخر میں میرا تبادلہ نزویہ سکول سے کہہ سکول میں ہو گیا تھا، اور 2012 کے آخر میں میرا تبادلہ کہہ سکول سے اعوان موہڑہ میں ہو گیا تھا۔ (ثبوت کے طور پر فوٹو کاپی لف خدمت ہے)

Attested

Huseena Shahreen

24/08/2013 کو ریکوری سٹاپ کرنے کیلئے سروس ٹریبونل میں کیس دائر کیا گیا سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ جس جعلی اور فرضی رپورٹ کی بنیاد پر بے گناہ معاملات پر جعلی اور فرضی ریکوری ڈالی گئی، اس تفتیشی آفیسر کا نام ریکوری کیس میں نہیں ڈالا گیا، کیونکہ ریکوری لسٹ میں شامل ایک ڈیفالٹر سعدیہ محفوظ جس کا بھائی روزنامہ شمال کا صحافی ہے اس کے ساتھ ADO نے Deal کی ہے، ADO نے صحافی کو کہا ہے کہ میں تمہاری بہن کو سکیل دیتی ہو، آپ میرا نام ریکوری کیس میں نہ ڈالیں، آخر وہی ہوا ADO کا نام مقدمہ سے باہر رکھا گیا ہے، صحافی کی بہن کو 2012 میں سکیل دے دیا گیا ہے، جس کا نوٹس ابھی تک محکمہ تعلیم کے اعلیٰ حکام نے کسی سے بھی نہیں لیا ہے، صحافی کا کہنا ہے کہ ADO کے پیرا پر دستخط نہیں ہیں، لیکن جس جعلی رپورٹ پر ریکوری ڈالی گئی، جس کی وجہ سے معاملات متاثر ہوئی آخر اس کا نام کیوں نہیں شامل کیا گیا۔ ہماری آپ سے التجا ہے کہ ADO اور اس کے ساتھ شامل افراد کے خلاف کارروائی کی جائے، تاکہ آئندہ ایسا کوئی فرضی اور جعلی کارروائی عمل میں نہ آئے۔

نوٹیفیکیشن SO(D&A) / 1-18/E&SE/2012 اس نوٹیفیکیشن کے تحت 11/07/2012 کو ایک فرضی ڈیفالٹر لسٹ میں شامل سعدیہ محفوظ، جس کا سیریل نمبر 140 اور سینارٹی نمبر 888 ہے اور اسی فرضی ڈیفالٹر لسٹ میں میرا بھی نام شامل تھا لیکن 11/07/2012 کو 15 سکیل سے مجھے جان بوجھ کر محروم کیا گیا اور میرے ساتھ شامل سعدیہ محفوظ کو 14 واں سکیل دے دیا گیا، میری سینارٹی فائل اور سروس بک کو ADO مس اظہرہ آفریدی نے جان بوجھ کر غائب کر دیا تھا، سکیل دینے کے وقت جس کے لیے میں نے ڈپٹی کمشنر شکایت سیل ہری پور میں اپنی سینارٹی فائل اور سروس بک کی برآمدگی کے لیے 09/09/2013 کو دفتر ہذا میں اپنی درخواست جمع کرائی تھی۔ (ثبوت کے طور پر فوٹو کاپی لف خدمت ہے)۔ آخر کار 02/10/2013 کو مجھے Removed کی ہوئی Sanarity File اور سروس بک Anti Cruption Officer Circle Haripur محمد زاہد صاحب کی مسلسل کوششوں کے بعد مجھے میری سینارٹی فائل اور سروس بک Remove کی ہوئی ملی، جس کو مس اظہرہ آفریدی نے رشوت نہ دینے کی وجہ سے دانستہ طور پر remove کیا۔ مجھ سے جو نیئر معاملات کو 15 ویں سکیل سے نوازا گیا، جن میں من شازیہ اختر ولد راجہ محمد اختر خان، مس نیر سلطانہ ولد سید عارف حسین شاہ، جو کہ مجھ سے جو نیئر تھی۔ میں سینئر ہونے کے باوجود بھی 15 ویں سکیل سے مس اظہرہ آفریدی کے ہاتھوں جان بوجھ کر محروم کی گئی۔ (ثبوت کے طور پر فوٹو کاپی لف خدمت ہے)۔ اس سلسلہ میں میں نے اپنی اپیل ڈائریکٹر ایجوکیشن پشاور کو 06/06/2013 کو 15 ویں سکیل کے لیے جمع کرائی تھی۔ جس پر تاحال کوئی نوٹس نہیں لیا گیا، اور اسی طرح دفتر ہذا DEO صاحبہ زناہ مدارس ہری پور 04/11/2013 کو 15 ویں سکیل کے لیے اپنی اپیل جمع کرائی تھی جس پر کوئی بھی نوٹس نہیں لیا گیا۔ اور اسی طرح میں نے 16/04/2013، 28/08/2013، 12/09/2014 کو دفتر ہذا میں 15 ویں سکیل کے لیے اپیلیں جمع کرائی تھی۔ جس پر تاحال کوئی نوٹس نہ لیا گیا۔ میری سروس اس وقت 26 سال میں داخل ہو چکی ہے، میں B.A ہوں اور ساتھ PTC کی ہوئی ہے، اس کے باوجود مجھ سے جو نیئر کو 15 واں سکیل دے دیا گیا رشوت نہ دینے کی وجہ سے۔ دوسری بار پھر مجھے BPS-15 سے محروم کیا گیا میرا نام سینارٹی لسٹ میں شامل تھا۔ میرا سینارٹی نمبر 346 اور سیریل نمبر 322 ہے۔ میرا ڈفر کا کیس تھا، میری فائل اور سروس بک پہلے ہی سے ADO پھر بالہ سرکل نے دستخط کر کے باوجود صاحبان کے حوالے کر دی تھی۔ بمطابق سپرنٹنڈنٹ بشیر صاحب نے کہا ہے کہ میں نے ADO سے لڑ کر آپ کے سکیل کا مقدمہ جیتا ہے، کیونکہ ADO ریکوری والی معلومات کو 15 واں سکیل نہیں دینا چاہتی تھی۔ کیونکہ اس سے پہلے 07/11/2012 کو ایک ڈیفالٹر لسٹ میں شامل معلماہ جس کا سیریل نمبر 140 اور سینارٹی نمبر 888 ہے اس کو 14 واں سکیل دیا گیا اور ADO وغیرہ کس ریکوری کیس کی بات کرتی ہے۔ اس بار بھی ADOs اور کلرک صاحبان نے ملکر میری سینارٹی فائل اور سروس بک کو ڈائریکٹر پشاور کے سامنے ڈی پی سی کے وقت پیش

Attested
Husena Shaheen

باوجود 15 سکیل سے جان بوجھ کر کلرک صاحبان اور ADO سرکل کی مہربانیوں اور Pre Planing کے باعث دوسری بار 15 ویں لیل سے محروم کیا گیا۔ میری اس وقت 26 سال سروس ہو گئی ہے، میں B.A، PTC ہوں اور مجھ سے جو نیشنل شایہ اختر، نیشنل سلطانہ کو 15 واں سکیل دیا گیا ہے۔ میں نے 12/09/2014 کو پھر 08/12/2014 کو 15 سکیل کے لیے DEO آفس میں اپیل کی ہے، اس پر کوئی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ برائے مہربانی DEO زنانہ آفس ہری پور ڈائریکٹر ایجوکیشن پشاور، ایس ڈی ای او اور ADO اور سپرنٹنڈنٹ بشیر صاحب سے معاملے کے بارے میں انکواری کی جائے، اس سے پہلے میں نے 06/06/2013، 04/11/2013، 16/04/2013، 28/08/2013، 12/09/2014، 08/12/2014 کو 15 ویں سکیل کے لیے اپیلیں جمع کرائی تھیں، جن پر تاحال کوئی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ (ثبوت کے طور پر نوٹو کاپی لف کر رہی ہوں)۔

میری اس وقت پھر ہالہ سرکل میں 11 سال کے قریب عرصہ ہو گیا ہے، اور مجھے تاحال کسی بھی جگہ پر تبدیل نہیں کیا گیا ہے، میڈیکل پیش کرنے کے باوجود، مسٹر سے لکھوانے کے باوجود ADO اور DEO اور ڈائریکٹر ایجوکیشن جان بوجھ کر میرا تبادلہ نہیں کر رہے ہیں۔ (ثبوت کے طور پر تبادلے پر دی جانے والی درخواست کی نوٹو کاپیاں لف خدمت ہیں)۔

04/05/2011 سے لے کر 24/05/2011 تک میری رخصت استحقاقیہ کی درخواست دفتر ہذا DEO آفس ہری پور اور ADO پھر ہالہ سرکل اور انگلش میڈیم کہکے پرائمری سکول میں منظور کی ہوئی پڑھی ہوئی تھی ADO، نے ہیڈ مسٹریس کہکے کے ساتھ ملکر میری رخصت استحقاقیہ کی درخواست کو غائب کروا دیا تھا۔ مجھ پر 20 دن کا جھوٹا جعلی ڈیفنڈنٹس بنانے کے لیے 20 دن کی چھٹیوں کی تفصیل میری سروس بک میں انٹری ہوئی تھی، جس کی وجہ سے میری بچت ہو گئی، رخصت استحقاقیہ درخواست کے بارے میں ADO اور ہیڈ مسٹریس مریم سے انکواری کی جائے۔ 09/10/2014 کو میں نے دفتر ہذا DEO زنانہ مدارس ہری پور میں اپنی سروس بک پر Red Entry کرنے کی دھمکی کا نوٹس لینے کے لیے درخواست جمع کروائی تھی اس پر کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ Red Entry کی دھمکی مجھے ADO پھر ہالہ سرکل نے دے رکھی تھی۔ میرے پاس ADO سرکل پھر ہالہ DEO ہری پور ڈائریکٹر ایجوکیشن پشاور کے خلاف اخبار کی کٹنگ موجود ہے۔ (نوٹ وکاپی لف خدمت ہے)۔

چیرمین تحریک انصاف عمران خان کے ایڈریس پر بھی اپنے حق کے لیے درخواست بھیجی تھی، لیکن وہاں سے بھی ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا ہے۔ (ثبوت کے طور پر نوٹو کاپی لف خدمت ہے)۔

ADO پھر ہالہ سرکل کے اعتراضات:

جواب: جہاں تک آڈٹ پیرا میں اٹھائے جانے والے اعتراضات کا میں اس طرح جواب دیتی ہوں، میں لگا تار 2 سال نزلتو پیرا پرائمری سکول اور کہکے پرائمری سکول میں حاضر تھی، جس کا ثبوت میں اپیل کے ساتھ لف کر رہی ہوں۔ ریزلٹ کا تعلق 2010 اور 2011 کے ساتھ نہیں آتا ہے، کیونکہ مس اظہرہ آفریدی نے 2010 اور 2011 کا عرصہ ڈالا ہے، جبکہ امتحان 2012 مارچ کے مہینے میں ہوئے، تو پھر کس طرح مس اظہرہ آفریدی نے جھوٹے اور جعلی 2010 اور 2011 کی ریزلٹ رپورٹ مرتب کی۔ اور اپنی طرف سے فرضی والدین کونسل میں شامل کیے جانے والے جھوٹے افراد کے دستخط، جعلی اور فرضی ریزلٹ پر کیسے کروائے۔

لہذا میری آپ سے ہمدردانہ التماس ہے کہ مس اظہرہ آفریدی کے خلاف 420 کی کارروائی کی جائے اور سابقہ آڈٹ آفیسر کے خلاف کارروائی کی جائے اور وزیر اعلیٰ صاحب سے Re Audit کی درخواست کی جائے، تاکہ ہمارے اُوپر جعلی اور فرضی ریکوری ختم ہو سکے۔

Attested

Huseena Shaheen

Huseen Shahen

AHsted

Attorney General's Office Case Referred to STU

27 12 2014

Complain number 10547

STU

03239244668

STU
Admission

Special Investigation Unit

ڈاکٹر ایف. انصاری، ایڈووکیٹ، ممبر ایجوکیشنل سروس کمیٹی

0300-8358065 / 0332-5136809 / راولپنڈی

ایجوکیشنل سروس کمیٹی

گورنمنٹ سیکولر ہائی اسکول، ایف ڈی ایف،

ایف ڈی ایف، ایف ڈی ایف، ایف ڈی ایف، ایف ڈی ایف، ایف ڈی ایف،

رجسٹرڈ

آئی۔

میری تعلیمی اور پیشہ ورانہ سہولیات کے لیے۔ میں نے اپنے پاپروا اور دیگر شہریوں کو تعلیمی اور پیشہ ورانہ سہولیات فراہم کرنے کے لیے اپنی سہولتوں کو منانے کے لیے۔

25

2011
 سرکاری سکول ایگراں موہڑہ

شمارہ	شمارہ سرپرست	نام	ولدیت	تاریخ پیدائش	آباد لارنس	PTC	آباد لارنس	موجودہ پتہ	موجودہ پتہ	موجودہ پتہ	موجودہ پتہ	موجودہ پتہ	موجودہ پتہ	موجودہ پتہ	موجودہ پتہ	موجودہ پتہ	موجودہ پتہ	موجودہ پتہ
1	00259146580	آسیہ خاتون	سرفراز	4/75	11-4-96	15/11/1994	09	15	4/13	15	09	15	09	15	09	15	09	15
2	251022733	بنی ناز	فدا حسین	5/77	23/9/99	27/2/1999	09	14	4/13	14	09	14	09	14	09	14	09	14
3	00252833	ناہید بیگم	منور گل	4/88	27/8/88	13/5/1997	07	12	12/07	12	07	12	07	12	07	12	07	12
4	219426	مسرت بوستان	بوستان خان	30/76	30/10/97	2001	07	12	12/07	12	07	12	07	12	07	12	07	12
5		محمد ریاض	محمد نواز	7/96	1957	7/96	01											

پوسٹوں کی تفصیل

کل مشور شدہ پوسٹ	کل درنگ پتہ	خالی پوسٹ	خالی ہونے کی وجہ	مجموعی کارروائی
1	4	Nil		
1				
2				
4				
1				

تعداد طلباء و جماعت وار

کلاس	تعداد طلباء	تعداد طالبات	میزان
زری	4	6	10
پہلے	9	19	28
اول	3	11	14
دوم	3	13	16
۳	1	18	19
چہارم	0	12	12
پنجم	0	13	13
میزان کل	20	89	112

کوائف عمارت مدرسہ

تعداد کمرے	تعداد کمرے	تعداد کمرے	تعداد کمرے	تعداد کمرے	تعداد کمرے	تعداد کمرے	تعداد کمرے	تعداد کمرے	تعداد کمرے	تعداد کمرے	تعداد کمرے	تعداد کمرے	تعداد کمرے	تعداد کمرے	تعداد کمرے	تعداد کمرے	تعداد کمرے	تعداد کمرے
02	1995	پانی	گراؤنڈ	سپورٹس فٹنگ	بیک ایریج													
02	SP 219049				N-B-P													
10	16	16	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

کوائف PTC

PTC کلاس	اکاؤنٹ نمبر	بیک ایریج	نام چارج	فون نمبر
26-4-2011	N-BP 11098-9		سارا	

Attested
 Huzeenashaheen

Head Mistress
 Govt. Girls Primary School
 Awara, Mohra

مفت کھانا، محمد پرویز ٹیوٹی

Attested
Huseen Shahen

MS. P. M. P.
Huseen Shahen
2013

Huseen Shahen
2013

Handwritten text line 1

Handwritten text line 2

Handwritten text line 3

Handwritten text line 4

Handwritten text line 5

Handwritten text line 6



ANNEX 5

Huseena shahen

Attested

Huseena shahen

1. *[Handwritten Urdu text]*

3 11/2015

[Handwritten Urdu text]

[Handwritten Urdu text]

[Handwritten Urdu text]

[Handwritten Urdu text]

[Handwritten Urdu text]

[Handwritten Urdu text]

[Handwritten Urdu text]

2015 - 2016

[Handwritten Urdu text]

28

[Handwritten Urdu text]

44



ANNEX - H **69**

Position code: 80160297

PAYROLL SYSTEM
ADJUSTMENT FORM
SINGLE EMPLOYEE ENTRY

OFFICE OF THE
FOR THE MONTH OF 8, 2005

POST CODE: HR7041 Description: SDEOLC

Posting Number: 00252258 Employee Name: Huseen Shaleen

Grade (Pay Scale Group): 12th PST Status: Start Sep

GENERAL DATA CHANGES		CHANGE IN PAYMENTS/DEDUCTIONS			Eligible Date	Remarks
Sl. No.	Pay Contab. No.	Wage Type	Amount	Pay Contab. No.	Pay Contab. No.	Remarks
		Pay. Active	20755-			18/01/05 - 18/01/05
			1306-			18/01/05 - 18/01/05
			2856-			18/01/05 - 18/01/05
			1500-			18/01/05 - 18/01/05
			4347-			18/01/05 - 18/01/05
			24800-			18/01/05 - 18/01/05
			21741600-			18/01/05 - 18/01/05
			21992075-			18/01/05 - 18/01/05
			30121160-			18/01/05 - 18/01/05
			30121180-			18/01/05 - 18/01/05
			3511-18-			18/01/05 - 18/01/05
			3604-115-			18/01/05 - 18/01/05
			3990-100-			18/01/05 - 18/01/05

Attested
Huseenashaleen

[Signature]
POST HARPU

Success Number: 1

① Researcher
of the
Office
of the
Director

② Position
of the
Director

doing the
of the
of the
of the
of the



ANNEX-I

38



**OFFICE OF THE
DISTRICT EDUCATION OFFICER (FEMALE)
HARIPUR**

(Office Phone No. 0995-613244 Fax No. 0995-615140)

SHOW CAUSE NOTICE

I, Miss Naheed Anjum District Education Officer (F) Haripur, as competent authority under the Khyber Pakhtunkhwa Government Servants (Efficiency & Discipline) Rules 2011, do hereby serve upon you, Mst Haseena Shaheen PST GGPS Awan Mohra Distt Haripur as follows:

1: (i). Whereas, as per report of the IMU E & SE Haripur, for the month of April 2015 you had been transferred to GGPS Awan Mohra vide this office order No 2088-93 dated 08/11/2012. However, you have not complied with the order and are still teaching at GGPS Ghulam Abad without any order.

(ii) Whereas, an inquiry was conducted against Mst Azra Afridi ASDEO (F) Circle at your complaint, the inquiry officer has concluded that You remained willfully absent from duty from 1-9-2014 to 24-9-2014, (24 days) and again from 21-1-2015 to 5-2-2015 (16 days) and

(ii) on going through the findings and recommendations of the inquiry officer, the material on record and other connected papers including your defence before the inquiry officer,

I am satisfied that you have committed the following acts/omissions specified in rule 3 of the said rules:

✓ (a). You are guilty of willful absenteeism and Misconduct.

2. As a result thereof, I as the competent authority, have tentatively decided to impose upon you one of the major or minor penalties under rule-4 of the said rules.

3. You are, therefore, required to show cause as to why the aforesaid penalty/penalties should not be imposed upon you and also intimate whether you desire to be heard in person.

4. If no reply to this notice is received within 15 days of its delivery, it shall be presumed that you have no defense to put in and in that case Ex-Parte action shall be taken against you.

District Education Officer (Female) *[Signature]*
Haripur
(Competent Authority)

Endst; No. 6092-93 /DEO (F) Haripur/Estb;Pry /Discp. Action, Dated Haripur the 16 /06/2015
Copy of the above is forwarded for information to the: -

1. Director Elementary & Secondary Education Khyber Pakhtunkhwa Peshawar.
2. Sub Divisional Educational Officer (F) Sub Division concerned.
3. Assistant Sub Divisional Educational Officer (F) Circle concerned.
- ✓ 4. PSHT GGPS Awan Mohra Haripur.
5. Master File.

Mst Haseena Shaheen PST GGPS Awan Mohra

Attested
Haseena Shaheen

ANNEX J (31)

قرضت منا لم يلم بغيره من غيري
صاحب عالم

نورمان گزادش به کنه بخیر و درین روز است تحت فشار است

صاحب عالم و من کمال من صاحب عالم است صاحب عالم

لینا به بان قرضت من غیر من و من رفقت بنایت قرضت


انصاران

عین نورمان گزادش

نایت من قرضت من غیر من و من رفقت بنایت قرضت

11-9-2014

Attested
Huseena shahen



حضرت مولانا محمد رفیع صاحب مدظلہ العالی کے پاس

صاحب مدظلہ العالی

موضوع: درخواست پانچ سو روپے کی رقم کی فراہمی کے لئے

میں نے پانچ سو روپے کی رقم کی فراہمی کے لئے درخواست دی ہے

جو کہ اس رقم کی فراہمی کے لئے درخواست دی ہے


اللہ اعلم

محمد رفیع شاہ

نام: حضرت مولانا محمد رفیع صاحب مدظلہ العالی
پتہ: محلہ کھنڈ، تحصیل کھنڈ، ضلع کھنڈ، پاکستان

تاریخ: 15-9-2014

Attested
Huseen Shaheen



EMERGENCY Rs.
 DHO HOSPITAL-HARIPUL
 OUT-PATIENTS DEPARTMENT

FACE VALUE RI'S

NAME Dr. [unclear]
 YEARLY NO. 99856
 DATE 15-09-14
 DISEASE

cp. Fever - 5 days. Urticaria
 Dr. T. 103F
 - Chin Chin Δ. Enteric fever
 { 24. Caprocin 500P
 171.
 6. Calc P 41
 2d. Moxizone 1200
 But not home for
 5 days.

[Signature]
 15/9/2014
 Dr. Shoukat Hussain
 Deputy Medical Superintendent
 DHO Hospital Haripur

PST [unclear]
[unclear]

15-9-2014

Attested
 Huseena Shaheen

مفتی صاحبزادے کی ایک اور پشیمانی نسل سے منسوب ایک اور نسل سے منسوب

میں سے علیہ

مؤرخہ گزارش ہے کہ *Chand* یا *Chand* ہیں اور یہاں سے منسوب ہیں اور یہاں سے منسوب ہیں

اور یہاں سے منسوب ہیں اور یہاں سے منسوب ہیں اور یہاں سے منسوب ہیں

یہاں سے منسوب ہیں اور یہاں سے منسوب ہیں اور یہاں سے منسوب ہیں

مؤرخہ گزارش ہے کہ 29 ستمبر

میں سے منسوب ہیں اور یہاں سے منسوب ہیں اور یہاں سے منسوب ہیں

اور یہاں سے

میں سے منسوب ہیں اور یہاں سے منسوب ہیں اور یہاں سے منسوب ہیں

یہاں سے منسوب ہیں اور یہاں سے منسوب ہیں اور یہاں سے منسوب ہیں

میں سے منسوب ہیں اور یہاں سے منسوب ہیں اور یہاں سے منسوب ہیں

20-9-2017

Attested
Huseenashcheen

35

EMERGENCY Rs.5/-
DHQ HOSPITAL HARIPUR
OUT-PATIENTS DEPARTMENT

FACE VALUE RUPEES

NAME Urohm in D

YEARLY NO. 101787

DATE 20-9-14

DISEASE

T: 100F & Enter fever

1. Tab. Gen - 14 55/480
171

Tab. Cipromin SW
127

Tab. Calc P 44

Syp. Lidoply 212

~~Tab. Gen 14~~
~~Tab. Gen 14~~

Dr. Shoukat Hussain
Deputy Medical Superintendent
DHQ Hospital Haripur

Urohm

عین شہزادہ کی

تاریخ 20/9/14 PST اور 20/9/14 کو

Attested

Huseenashaheen

حضرت صاحبزادہ کی ای اور صاحبزادہ صاحبہ کے لئے اسکول انٹرنیشنل اسلام آباد

وہاں پر

موجودہ گزٹ آرڈر کے تحت اسکول انٹرنیشنل اسلام آباد کے لئے

انوار مولانا صاحب ایڈمنسٹریٹو افسر ایف اے ایم اے ایف ای

صاحبزادہ صاحبہ کی ای اور اسکول انٹرنیشنل اسلام آباد کے لئے

اور ایڈمنسٹریٹو افسر ایف اے ایم اے ایف ای کے لئے

ایف اے ایم اے ایف ای کے لئے

انوار مولانا صاحب ایڈمنسٹریٹو افسر ایف اے ایم اے ایف ای

ایف اے ایم اے ایف ای

انوار مولانا صاحب ایڈمنسٹریٹو افسر ایف اے ایم اے ایف ای

22/1/2015

انوار مولانا

Attested

Huseenashaheen

37

EMERGENCY

Rs. 10/-

DHQ HOSPITAL HARIPUR

OUT-PATIENTS DEPARTMENT

NAME Shahid

YEARLY NO. 7149

DATE 22-1-2015

DISEASE

Cough, fever, loss of weight, etc.
ARI & CR

- 1. 1/2 Ampicillin
- 2. 1/2 Ciprofloxacin IV

24. Moxifloxacin sup

25. Paracetamol 17'

Syp. Dofetilone 22'

~~bed rest home for four days~~

~~not valid for costs~~

Shahid
22/1/15
Dr. Shoukat Hussain
Deputy Medical Superintendent
Dhq Hospital Haripur

Attested
Huseena Shaheen

FACE VALUE RUPEES 10/-

38

Lady Dr. Misbah Qazi

MBBS, NMP, DGO, DWHP (UK)
District Gynaecologist D.H.Q Hospital Haripur



لیڈی ڈاکٹر مصباح قاضی

ایم بی بی ایس ڈی ایم پی ڈی وی پی (یو کی)
ڈسٹرکٹ (جینیکالوجسٹ) ڈی ایچ او ہسپتال ہری پور

Ref No. _____

Date 24/11/2015

Name: Haseena Shaheen

Age: 45yrs

Sex: F

Clinical Record.

PARO

45 yrs Dr. Rasfia
183 - 10 months

Irreg. menses - 4 yrs

Imp. 2/1/15

Already
take Progestin
4 days

4 days
Belesin

R. M.F - 2yrs

R.

Cap. Proino scamp

1-1-15

Tab. Progestin

1-1-15

1-1-15

Tab. Proxm

1-1-15

cap. Teph inge

1-1-15

1-1-15

1-1-15

1-1-15

1-1-15

DR. MISBAH QAZI
MBBS DGO & NHPD (UK)
District Gynaecologist
D.H.Q Hospital Haripur


NOT VALID FOR COURT
Near Shoranwala Gate, Michalkah Khoo, West Circular Road, Haripur. Contact: 0313-5218113

Attested

Haseena Shaheen

Dr. Misbah Qazi

Signature



40

EMERGENCY Rs.10/-
DHQ HOSPITAL HARIPUR
OUT-PATIENTS DEPARTMENT

FACE VALUE RUPEES 10/-

NAME Huseena Shaheen

YEARLY NO. 10618

DATE 30-1-2015

DISEASE _____

From - 7 days. Δ Enteric fever
100% return

- 1. D. D. 1 km
- 2. D. C. Ciprodin 500 mg 1/1
- 3. D. C. Cefepim 1/1
- 4. D. C. Cefepim 1/1

Bed rest home for
Three Days

Not valid for work

[Signature]
Dr. Shoukat Hussain
Deputy Medical Superintendent
DHQ Hospital Haripur

Attested
Huseena Shaheen

محکمہ صحت و طبی امداد میں صبر زنا زہد اور اس سکول اسٹیوڈنٹس کو

صاحب عالیہ

مدرسہ گورنمنٹ کے اعلیٰ ترین مدرسہ شاہین آباد میں گورنمنٹ گورننگ کونسل
انڈیا کی طرف سے ایسے فرائض و فرائض کے اتمام کے لئے
صاحب عالیہ کی طرف سے ایسے فرائض و فرائض کے اتمام کے لئے
ایسے فرائض و فرائض کے اتمام کے لئے
2-2-2015

السارہ

صاحب عالیہ کی طرف سے ایسے فرائض و فرائض کے اتمام کے لئے

2-2-2015

Huseena shabeen

Attested

Huseena shabeen



EMERGENCY Rs.10/-
DHO HOSPITAL HARIPUR
OUT-PATIENTS DEPARTMENT

FACE VALUE RUPEES 10/-

NAME: D. S. Prasad

YEARLY NO. 10870

DATE 2-2-15

DISEASE

T.10) P
B-Enteric fever

Q. as grippe with
low fever & stiffness
low calf pain
~~bed rest home~~
for four days
not valid for work

[Signature]
Dr. Shoukat Hussain
Medical Superintendent
DHO Hospital Haripur

Attested

Huseenashahen

PK

43

خدمت خانہ ڈی ای او صاحبہ زمانہ مدارس سندھ کا دفتر

خانہ عالیہ

NO:

خودمانہ گمراہی کے ضمن میں حضرت حسینہ بیگم 25-9-2014

BPS-11

on de

اپنے خزانہ صاف و آئینہ دار اور گول گول اور گول گول اور گول گول

EA

Cc

دریں میں ایک آرڈر کے مطابق

اسی کے لئے 29 ستمبر کو میں اپنے خزانہ صاف و آئینہ دار اور گول گول

سکول کے خزانہ میں ہر ایک نام کے مطابق

خانہ عالیہ میں درج ذیل اسٹیٹس میں داخل اور صاف و آئینہ دار اور گول گول

میں اڑھائی کے اور آئینہ دار اور گول گول میں نام 26 ستمبر 2014 کو پورا ہوا

اپنے خانہ دار و حتمی ہذا میں بھی قبضہ اور حتمی ہذا کے مطابق اور گول گول اور گول گول

میں 29 ستمبر کو جو خزانہ میں ہے اس کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ

میں درج ذیل اسٹیٹس میں ہے اور گول گول اور گول گول اور گول گول

میں اڑھائی کے اور آئینہ دار اور گول گول میں نام 26 ستمبر 2014 کو پورا ہوا

M. Azam SS

29/9/2014

PK: [Signature]

خانہ عالیہ میں درج ذیل اسٹیٹس میں ہے اور گول گول اور گول گول اور گول گول

Attested

Huseenashaheen



290

For Insurance Notices see reverse.
Stamps affixed except in case of
uninsured letters of not more than
initial weight prescribed in the
Post Office Guide or on which no
acknowledgment is due.

Rs. Pa.

received a registered
addressed to

Initials of Receiving Officer *[Signature]*
"Write here "letter", "postcard", "envelope" or "parcel"
with the word "insured" before it when necessary.

Insured for Rs. (in figures) *100* (in words) *one hundred*

Insurance fee Rs. *10*
Name and address of sender *[Signature]*

Attested
Huseena shaheen

Reminder-1



ANNEX-K (48)

**OFFICE OF THE
DISTRICT EDUCATION OFFICER (FEMALE)
HARIPUR**
(Office Phone No. 0995-613244 Fax No. 0995-615140)

To

Mst Haseena Shaheen PST
GGPS Awan Mohra Haripur
Subject:- **SHOW CAUSE NOTICE**
Memo.

No. 7780 Dt: 10-8-2015

Reference your reply to the show cause notice served upon you by this office vide No. 6092-93 dated 16-06-2015 in connection with your willful absenteeism, it is stated that you have badly failed to show cause to the allegations/omissions mentioned in the notice. Your reply is just a layman excuses.

Therefore you are once again directed to show cause as to why one or more penalties should not be imposed upon you under rule, 4 of the Khyber Pakhtunkhwa government servants (Efficiency and Discipline) Rules, 2011.

If no reply to this reminder is received within 07 days of its delivery, it shall be presumed that you have no defence to put in and in that case an ex-parte action shall be taken against you under the ibid rules which may result in your dismissal from government service.

(Copy of the show cause notice is attached herewith)

(Naheed Anjum)
District Education Officer (Female)
Haripur
Competent Authority

7781-85

Endst; No. _____ /DEO (F)/Haripur/Estb; Pry/Disc; Act Dated; Haripur the 10/08/2015
Copy forwarded for information to the:-

1. Director E&S Education Khyber Pakhtunkhwa Peshawar.
2. Deputy Commissioner Haripur.
3. District Monitoring Officer E & SE Haripur.
4. SDEO (F) Haripur.
5. ASDEO (F) Circle concerned.
6. M/File.

District Education Officer (Female)
Haripur

Attested

Huseena shaheen

Mst Haseena Shaheen PST GGPS Awan Mohra Haripur



46

OFFICE OF THE
DISTRICT EDUCATION OFFICER (FEMALE)
HARIPUR

(Office Phone No. 0995-613244 Fax No. 0995-615140)


No. 7775 Dt. 10/8/2015

To

Sub Divisional Education Officer (F)
Haripur

Subject:- REMINDER / SHOW CAUSE NOTICE
Memo.

Enclosed please find herewith a reminder in duplicate regarding show cause notice served upon Mst Haseena Shaheen PST GGPS Awan Mohra Haripur. You are directed to hand over one copy to the teacher concerned and get her signature on the other one as a receipt, for early return to this office.



(Naheed Anjum) 10/8/15
District Education Officer (Female)
Haripur
Competent Authority

Endst; No. _____ /DEO (F)/Haripur/Estb;Pry/Discp Act Dated ; Haripur the _____ 08-2015
Copy forwarded for information to the:-

1. Director E&S Education Khyber Pakhtunkhwa Peshawar.
2. Deputy Commissioner Haripur.
3. District Monitoring Officer E & SE Haripur.
4. M/File.


Jan'y No 66 dt. 10-8-15.

ASD EOC (F) Haripur


District Education Officer (Female)
Haripur

to get the receipt from concerned teacher & one copy
submit the DEOC (F) Haripur

Attested
Haseena Shaheen


10/8/15.

تشریح جملی مشورہ کارڈز نوٹس کا جواب جن میں No Enclst نہیں ہے اور نوٹس کے ساتھ
مطلب یہ ہے کہ تین تمام کارڈز نوٹس جاری ہو اصل Envelop

محکمہ صحت و صاف پانی ایچ ایچ ڈی کے ذریعہ ارسال شدہ نوٹس کے جواب (میں نے)

جناب عالیہ
موجودہ گزٹڈ آرڈر کے تحت مندرجہ ذیل نوٹس میں اس کی پی ایس 2 اگر نوٹس گزٹڈ آرڈر کی

سکول غلام آباد میں ایچ ایچ ڈی کے تحت مندرجہ ذیل نوٹس کے جواب (میں نے)

ضمانت پورے ڈیکور اور انٹرویو میں بہت کچھ رہی ہے کہ ایچ ایچ ڈی کے ذریعہ ارسال شدہ نوٹس کے جواب

مشورہ کارڈز نوٹس جاری کر سکتے ہیں۔ 8/2015 کو مشورہ کارڈز نوٹس 7781-85 جاری ہوئے

اور اس میں مشورہ کارڈز نوٹس پر 8/2015 کو Enclst No. 7780 DT. 10/8/2015 کے ساتھ ارسال ہوئے

اس 8/2015 کے ساتھ ارسال ہوئے نوٹس کے جواب (میں نے) تفصیل ملاحظہ فرمائی

میں نے 8/2015 کو مشورہ کارڈز نوٹس 7781-85 مورخہ 8/10/2015 کے ساتھ ارسال کیے ہیں

میں نے ان نوٹس کے جواب (میں نے) 8/2015 کو مشورہ کارڈز نوٹس 7781-85 مورخہ 8/10/2015 کے ساتھ ارسال کیے

میں نے 8/2015 کو مشورہ کارڈز نوٹس 7781-85 مورخہ 8/10/2015 کے ساتھ ارسال کیے ہیں

Envelop کے ساتھ ارسال کیے گئے نوٹس کے جواب (میں نے) تفصیل ملاحظہ فرمائی

مشورہ کارڈز نوٹس کے جواب (میں نے) تفصیل ملاحظہ فرمائی

Reminder-11 اس میں مشورہ کارڈز نوٹس کے جواب (میں نے) تفصیل ملاحظہ فرمائی

Attested
Huseena shaheen
17/8/2015

گردنے میں جس میں Envelop اور بیرونی جالیوں کی تیار ہوتی ہے اور جسے Envelop

بھی کہتے ہیں ان دونوں حصوں سے بنا کر فونڈل کی شکل آگے لگائی تو وہیں پاپیلا

رہتا ہے اور ان میں سے ایک حصہ جو کہ ایک طرف سے دوسری طرف کے ساتھ

میں منگیس لگتا ہے اور اس کی شکل اس کی شکل سے ملتی ہے اور اس کی شکل

کو بھی منگیس کہتے ہیں اور اس کی شکل اس کی شکل سے ملتی ہے اور اس کی شکل

صاف ہوتی ہے اور اس کی شکل اس کی شکل سے ملتی ہے اور اس کی شکل

کو بھی منگیس کہتے ہیں اور اس کی شکل اس کی شکل سے ملتی ہے اور اس کی شکل

سے تیار ہوتی ہے اور اس کی شکل اس کی شکل سے ملتی ہے اور اس کی شکل

لکڑی کی شکل میں لگتا ہے اور اس کی شکل اس کی شکل سے ملتی ہے اور اس کی شکل

دہنے کے حصے میں اور اس کی شکل اس کی شکل سے ملتی ہے اور اس کی شکل

کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کی شکل اس کی شکل سے ملتی ہے اور اس کی شکل

دہنے کی شکل میں لگتا ہے اور اس کی شکل اس کی شکل سے ملتی ہے اور اس کی شکل

7/2015 کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کی شکل اس کی شکل سے ملتی ہے اور اس کی شکل

Muhammad Shahreen

Attested

Revised on 11/8/2015

PK

3. The above mentioned Ex-facto is not correct and is to be corrected.

6/6/2015 (3)

10/8/2015 (8)

6/6/2015 (2)

19-A Recovery

10/8/2015 (8)

7/7/2015 (7)

8-7-2015

6/7/2015 (7)

6/6/2015 (6)

10/8/2015 (8)

10/8/2015 (8)

10/8/2015 (8)



1

Date 07/23-9-2014

D.No 1183

Transferral Posting

Investigation Circle/Location

10-50(FE)4-5 Meeting/2013/Transferral Posting

(5)

1. The undersigned is hereby informed that the following officers are to be transferred to the following posts from the date mentioned below:

Sl. No. Name of the Officer Present Post To be Transferred Post Date of Transfer

1. Mr. P. S. Srinivasan, IAS, Bangalore, to be transferred to the post of Additional District Magistrate, Bangalore, from the date mentioned below.

2. Mr. P. S. Srinivasan, IAS, Bangalore, to be transferred to the post of Additional District Magistrate, Bangalore, from the date mentioned below.

3. Mr. P. S. Srinivasan, IAS, Bangalore, to be transferred to the post of Additional District Magistrate, Bangalore, from the date mentioned below.

10-50(FE)4-5 Meeting/2013/Transferral Posting

18/12/2014

1. The undersigned is hereby informed that the following officers are to be transferred to the following posts from the date mentioned below:

Sl. No. Name of the Officer Present Post To be Transferred Post Date of Transfer

1. Mr. P. S. Srinivasan, IAS, Bangalore, to be transferred to the post of Additional District Magistrate, Bangalore, from the date mentioned below.

2. Mr. P. S. Srinivasan, IAS, Bangalore, to be transferred to the post of Additional District Magistrate, Bangalore, from the date mentioned below.

46

ANNEX - L

BEFORE THE PESHAWAR HIGH COURT,
ABBOTTABAD BENCH

W.P.No. _____ -A/2015

Haseena Shaheen, PST GGPS Ghulamabad, Tehsil & District, Haripur.

...PETITIONER

VERSUS

Govt. of Khyber Pakhtunkhwa, through Secretary Elementary & Secondary Education, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar & others.

...RESPONDENTS

WRIT PETITION


INDEX

S.#	Description	Page No.	Annexure
1.	Writ petition along with affidavit & Certificate	1 to 9	
2.	List of Books	10	
3.	Addresses of the parties	11	
4.	Copy of order	12	"A"
5.	Copy of order dated 07/11/2013	13	"B"
6.	Copies of application and charge	14 to 15	"C"
7.	Copies of the application and release order	16 to 17	"D" & "E"
8.	Copy of show cause notice and relevant record	18 to 43	"F"
9.	Copy of application	44	"G"
10.	Court Fee worth of Stamp paper Rs. 500/-		
11.	Wakalatnama.		

...PETITIONER

Dated: 06/11/2015

Through;


 (Abdul Aziz Khan Tanoli)
 Advocate High Court Abbottabad

47

BEFORE THE PESHAWAR HIGH COURT,
ABBOTTABAD BENCH.

W.P No. _____-A/2015

Haseena Shaheen, PST GGPS Ghulamabad, Tehsil & District, Haripur.

...PETITIONER

VERSUS

1. Govt. of Khyber Pakhtunkhwa, through Secretary Elementary & Secondary Education, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
2. Executive & District Education Officer (F), Haripur.
3. Sub-Divisional District Education Officer (F), Haripur.

...RESPONDENTS

WRIT PETITION UNDER ARTICLE 199 OF THE
CONSTITUTION OF ISLAMIC REPUBLIC OF
PAKISTAN 1973, AS AMENDED UPTO DATE WITH^{Red}
ARTICLE 3, 11, 9 AND 29 FOR DECLARATION TO
THE EFFECT THAT ACT AND ACTION OF THE
RESPONDENTS REGARDING NON-PAYMENT,
STOPPING THE SALARY OF THE PETITIONER

FOR THE MONTHS OF JUNE, JULY & OCTOBER, 2015 WAS CONTRARY TO PRINCIPLE OF POLICE LAW AND FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE PETITIONER.

PRAYER; ON ACCEPTANCE OF INSTANT WRIT PETITION, RESPONDENTS MAY GRACIOUSLY BE ORDER/ DIRECTED TO RELEASE THE SALARY OF THE PETITIONER IMMEDIATELY FURTHERMORE RESPONDENTS MAY ALSO KINDLY BE DIRECTED TO ADJUST THE PETITIONER ON REGULAR BASIS. ANY OTHER RELIEF WHICH THIS HONOURABLE COURT DEEM FIT AND APPROPRIATE MAY ALSO BE AWARDED PLEASE IN THE INTEREST OF JUSTICE.

Respectfully Sheweth: -

Brief facts giving rise to the instant writ petition are as under;-

- 1. That the petitioner is rendering her services in Education Department as a PST Teacher for last 27 years.

2. That petitioner through order Endst No. 2088-93 dated 08/11/2012 was mutually transfer from GGPS Kahka to GGPS Awan Mura. Copy of order is annexed as Annexure "A".
3. That the petitioner was adjusted at GGPS Choar Shareef on temporary basis through Endst No. 879-84 dated 07/11/2013. Copy of order dated 07/11/2013 is annexed as Annexure "B".
4. That on the application of Head Teacher GGPS Ghulamabad petitioner was adjusted through verbally order in the said school, and petitioner took over the charge of the post and started the duty. Copies of application and charge are annexed as Annexure "C".
5. That the respondents previously stop the salary of the petitioner due to unknown reason and petitioner submitted application to SDEO (F) Haripur to release her salary, which was released on month of August, 2015 by respondent No. 3. Copies of the application and release order are annexed as Annexure "D" & "E".

6. That the petitioner was issued show cause notice by the respondents on the basis of malafide and personal grudge which is pending. Furthermore the petitioner has already been submitted detail reply of the ^{show} cause alongwith sufficient proof to respondent. Copy of show cause notice and relevant record is annexed as Annexure "F".

7. That respondents again stopped the salary of the petitioner for months of June, July & October, 2015 without giving any written order or without any reason, just to humiliate the petitioner.

8. That the petitioner submitted application for written order regarding withholding/ stopping of salary, but no order was given to the petitioner till now. Copy of application is annexed as Annexure "G".

9. That there is no other efficacious remedy except this writ petition is available to the petitioner. Therefore, petitioner filed this writ petition, inter-alia, on the following grounds;-

GROUNDS:-

- a. That the non-payment of salary of the petitioner by the respondent is merely colourful exercise of the power, which is fancifully illegal, unlawful and not sustainable in the eye of law.
- b. That the respondents have not issued any written order regarding stopping of salary of petitioner. Salary of petitioner in circumstance was stopped without any lawful justification. Furthermore the petitioner and her family members had been deprived their bread and butter, which is against the fundamental rights of the petitioner granted by the constitution, hence not sustainable in the eyes of law.
- c. That the respondent No. 3 stop the salary of the petitioner just to take revenge. As petitioner submitted a complaint against here before NAB department. Therefore, the

act and action to stop the salary of petitioner is based on personal grudge, fanciful, illegal without lawful authority.

- d. That the respondents many time transferred the petitioner in short span of time from one school to other. So much so the petitioner was transferred, where, there the post of PST does not exist i.e Awan Mura. Furthermore the petitioner was directed by the respondent for performing her duty in GGPS Ghulamabad, where the Head Master of the said school was stopped by respondent No. 3, not to take are singed the attendance of petitioner in school, this act of the respondent is highly illegal, unlawful, arbitrary, and without lawful authority.

- e. That court fee stamp paper worth Rs. 500/- is affixed.

It is, therefore, respectfully prayed that on acceptance of instant writ petition, respondents may

graciously be order/ directed to pay/ release the salary of the petitioner immediately the furthermore respondents may also be directed to adjust the petitioner on regular basis. Any other relief which this Honourable Court deem fit and appropriate may also be awarded please in the interest of justice.


INTERIM RELIEF:-

It is, therefore, respectfully prayed that on granting of interim relief respondents may graciously be directed for release of salary of the petitioner till the final disposal of instant writ petition.

...PETITIONER

Through;

Dated: 06/11/2015


(Abdul Aziz Khan Tanoli)
Advocate High Court Abbottabad

VERIFICATION: -

Verified on oath that the contents of forgoing writ petition are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therein from this Honourable Court.

Huseena Shaheen
...PETITIONER



ANNEX - m/i

**OFFICE OF THE
DISTRICT EDUCATION OFFICER (FEMALE)
HARIPUR**

(56)

(Office Phone No. 0995-613244 Fax No. 0995-615140)

NOTIFICATION:

1. **Whereas, Mst: Haseena Shaheen PST GGPS Awan Mohra District Haripur** was proceeded under the Khyber Pakhtunkhwa Government Servants (Efficiency and Discipline) Rules-2011, on the charges of willful absenteeism from her duty.
2. **And Whereas**, show cause notices were served upon Mst: Haseena Shaheen PST GGPS Awan Mohra Haripur at her home address vide this office No. 6092-93/DEO(F) Haripur/Estb: Pry/Discpl Action dated 16/06/2015 , 7781-85 DEO(F) Haripur/Estb: Pry/Discpl Act dated 10/08/2015 , 7838 dated 12/08/2015, 18466-70 / DEO(F) Haripur/Estb: Pry/Discpl Action dated 21/08/2015 & 14247-51 DEO(F) Haripur/Estab: Pri/Haseena Shaheen dated 04/12/2015 for resuming her duty within Seven (7) days of the issuance of the notices.
3. **And Whereas** Mst: Samina Mushtaq Principal GGHS Sarai Selah was appointed as inquiry officer vide this office notification No. 9332/DEO(F)Haripur/Estb: Pry /Discip Act dated 05/10/2015.
4. **And Whereas** the inquiry officer after having examine the charges , evidence on the record submitted the report vide letter No. 165 /Inquiry/File dated 20/10/2015.
5. **And Whereas**, Mst: Haseena Shaheen PST GGPS Awan Mohra Haripur was called for personal hearing vide letter No.9129 dated 22-09-2015 and 14440 dated 11-12-2015. However she badly failed to appear before the authority within the stipulated time and hence rendered herself liable to an ex- parte action.
6. **And Whereas**, The authority having considered the charges, evidence on the record as per report of inquiry officer , ASDEO (F) Circle Pharahalla, SDEO (F) Haripur and giving the opportunity of personal hearing /appearing in person, to the accused teacher, is of the view that the charges leveled against her have been proved .
7. **Now, Therefore** , in exercise of the powers conferred by the Khyber Pakhtunkhwa Government Servants (Efficiency and Disciplinary) Rules 2011, rule 4 ((b (iv)), the Competent authority is pleased to impose the **Major Penalty Of Compulsory Retirement From Service, upon Mst: Haseena Shaheen PST GGPS Awan Mohra Haripur with immediate effect.**

(Naheed Anjum)
District Education Officer (Female)
Haripur
(Competent authority)

446-54

Endst; No__ /DEO (F) Haripur/Estab:Pry/Haseena shaheen PST,Dated Haripur the 19 /01/2016

Copy forwarded for information and n/action to the;

1. Director E & S Education Khyber Pakhtunkhwa Peshawar.
2. Deputy Commissioner Haripur.
3. Senior District Accounts Officer Haripur.
4. SDEO (F) Haripur with the directions to make necessary arrangements for the recovery of the whole pecuniary losses caused to Government Exchequer by receiving salary and allowances during the absence period.
5. District Monitoring Officer E & SE Haripur.
6. ASDEO (F) Circle concerned.
7. Primary School Head Teacher GGPS Awan Mohra Haripur.
8. Mst Haseena Shaheen PST GGPS Awan Mohra Haripur.
9. ADO Estab Primary Local Office.
10. Master File.

Attested

Haseena Shaheen


19/1/16
District Education Officer (Female)
Haripur

گورنمنٹ ہسپتال ایف ای او میں جب زنا نے ہزاروں سکول ایڈیٹرز میں سے ایک کے طور پر

57

عنوان، درخواست برائے قبول ایلوا کے آپریٹنگ مین دفتر ایلوا کے آپریٹنگ مین کے طور پر، جنھوں نے ہماری عدم موجودگی میں ایلوا میں Conduct کی

یا ایلوا کے آپریٹنگ مین کے دفتر کی مکمل رپورٹس جو ہماری عدم موجودگی میں Conduct کی گئیں آپس میں ٹوٹا پھوٹا کیا گیا ہے جس سے ضروری فرمائشیں

آئی ایلوا کے آپریٹنگ مین کے دفتر پر زائد شدہ مکتوبات کی مکمل ایلوا کے آپریٹنگ مین کے دفتر کی عدم موجودگی میں Conduct کی گئی آپس میں ٹوٹا پھوٹا کیا گیا ہے جس سے ضروری فرمائشیں

آئی ایلوا کے آپریٹنگ مین کے دفتر پر زائد شدہ مکتوبات کی مکمل ایلوا کے آپریٹنگ مین کے دفتر کی عدم موجودگی میں Conduct کی گئی آپس میں ٹوٹا پھوٹا کیا گیا ہے جس سے ضروری فرمائشیں

اور ان کی طرف سے کی زنا نے ایف ای او میں جس پر ایل 2012 کی صورت میں 3000 روپے کی رقمیں وصول کر کے گا جس سے مکتوبات کی صورت میں، اگر کوئی ایف ای او میں، دسمبر 2012 کو آئی ایلوا کے آپریٹنگ مین کے دفتر پر زائد شدہ مکتوبات کی مکمل ایلوا کے آپریٹنگ مین کے دفتر کی عدم موجودگی میں Conduct کی گئی آپس میں ٹوٹا پھوٹا کیا گیا ہے جس سے ضروری فرمائشیں

شکر ہے

ناٹیفکیشن مینٹننس میں ایف ای او میں کی گورنمنٹ ہسپتال ایف ای او میں

Received
M. Saad
12/15

Attested
15/12/2015
Huseen shaheen

صفوں، راسٹ، لوٹو اتھارٹیشن 30/12/2015 ایکٹ کے تحت صدر ذیل معلومات خزانہ کی جانب
تعمیر نوٹو کاپیاں

جناب عالیہ!

مودبانہ گزارش ہے کہ میں معلمہ حسینہ شاہین PST (BPS-12) گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول غلام آباد میں اپنے فرائض منصبی سرانجام دے رہی ہوں۔

جنابہ انکوآری آفیسر شمیمہ مشتاق کی مکمل انکوآری رپورٹس جو انہوں نے میری غیر موجودگی میں بذریعہ آفس لیٹر نمبر 165 مورخہ 20.10.2015 سالانہ کے خلاف کوئی انکوآری نہیں ہے، اس انکوآری رپورٹس کی مکمل نوٹو کاپیاں عنایت فرمائی جائیں۔

سالانہ آپ سے التماس کرتی ہے کہ مجھے چیک لسٹ 2016، سالانہ معائنہ 19.1.2016 گورنمنٹ پرائمری سکول اعوان موہڑہ اور ساتھ ہی لاگ بک 2016 اعوان موہڑہ اور گوشوارہ 2016 گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول اعوان موہڑہ عنایت فرمائی جائیں۔ اس سے پہلے میں 15.12.2015 کو انکوآری رپورٹس شمیمہ مشتاق کی نوٹو کاپیاں حاصل کرنے کیلئے درخواست گزار چکی ہوں جس کی وصولی بااوسعد صاحب نے دی ہے جو کہ تاحال مجھے نہیں ملی ہیں۔

العارضہ

نائب معلمہ حسینہ شاہین PST (BPS-12) گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول غلام آباد

Received
28/11/16

Attested
Huseena shaheen

ANNEX-P


BEFORE THE PESHAWAR HIGH COURT,
ABBOTTABAD BENCH.

59

W.P No. 1094 -A/2015

Haseena Shaheen, PST GGPS Ghulamabad, Tehsil & District, Haripur.

...PETITIONER



1. Govt. of Khyber Pakhtunkhwa, through Secretary Elementary & Secondary Education, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
2. Executive & District Education Officer (F), Haripur.
3. Sub-Divisional District Education Officer (F), Haripur.

...RESPONDENTS

NO: 4722
10/11/15

WRIT PETITION UNDER ARTICLE 199 OF THE
CONSTITUTION OF ISLAMIC REPUBLIC OF
PAKISTAN 1973, AS AMENDED UPTO DATE WITH^{red}
ARTICLE 3, 11, 9 AND 29 FOR DECLARATION TO
THE EFFECT THAT ACT AND ACTION OF THE
RESPONDENTS REGARDING NON-PAYMENT,
STOPPING THE SALARY OF THE PETITIONER

Certified to be true copy
Examiner
Peshawar High Court
Abbottabad Bench
Authorized Under Sec 75 Acts Ord 1973

60

BEFORE THE PESHAWAR HIGH COURT,
ABBOTTABAD BENCH.

W.P No. 1094 -A/2015

Haseena Shaheen, PST GGPS Ghulamabad, Tehsil & District, Haripur.

...PETITIONER

VERSUS

1. Govt. of Khyber Pakhtunkhwa, through Secretary Elementary & Secondary Education, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
2. Executive & District Education Officer (F), Haripur.
3. Sub-Divisional District Education Officer (F), Haripur.

...RESPONDENTS

NO: 4722
10/11/15

WRIT PETITION UNDER ARTICLE 199 OF THE
CONSTITUTION OF ISLAMIC REPUBLIC OF
PAKISTAN 1973, AS AMENDED UPTO DATE ^{Red} WITH
ARTICLE 3, 11, 9 AND 29 FOR DECLARATION TO
THE EFFECT THAT ACT AND ACTION OF THE
RESPONDENTS REGARDING NON-PAYMENT,
STOPPING THE SALARY OF THE PETITIONER

Certified to be True Copy

21
Peshawar High Court
Abbottabad Bench

Authorized Under Section 5 A's Ordinance

FOR THE MONTHS OF JUNE, JULY & OCTOBER, 2015 WAS CONTRARY TO PRINCIPLE OF POLICE LAW AND FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE PETITIONER.

PRAYER; ON ACCEPTANCE OF INSTANT WRIT PETITION, RESPONDENTS MAY GRACIOUSLY BE ORDER/ DIRECTED TO RELEASE THE SALARY OF THE PETITIONER IMMEDIATELY FURTHERMORE RESPONDENTS MAY ALSO KINDLY BE DIRECTED TO ADJUST THE PETITIONER ON REGULAR BASIS. ANY OTHER RELIEF WHICH THIS HONOURABLE COURT DEEM FIT AND APPROPRIATE MAY ALSO BE AWARDED PLEASE IN THE INTEREST OF JUSTICE.

Respectfully Sheweth: -

Brief facts giving rise to the instant writ petition are as under;-

1. That the petitioner is rendering her services in Education Department as a PST Teacher for last 27 years.

M. P. Khan
 Certified to be True Copy
 Examiner
 Peshawar High Court
 Abbottabad Bench
 08/11/16
 Authorized Under Sec 75 Acts Ord 1973

FOR THE MONTHS OF JUNE, JULY & OCTOBER, 2015 WAS CONTRARY TO PRINCIPLE OF POLICE LAW AND FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE PETITIONER.

PRAYER; ON ACCEPTANCE OF INSTANT WRIT PETITION, RESPONDENTS MAY GRACIOUSLY BE ORDER/ DIRECTED TO RELEASE THE SALARY OF THE PETITIONER IMMEDIATELY FURTHERMORE RESPONDENTS MAY ALSO KINDLY BE DIRECTED TO ADJUST THE PETITIONER ON REGULAR BASIS. ANY OTHER RELIEF WHICH THIS HONOURABLE COURT DEEM FIT AND APPROPRIATE MAY ALSO BE AWARDED PLEASE IN THE INTEREST OF JUSTICE.

Respectfully Sheweth: -

Brief facts giving rise to the instant writ petition are as under;-


1. That the petitioner is rendering her services in Education Department as a PST Teacher for last 27 years.

M. P. Khan
Certified to be True Copy
Examiner
Res. No. 101/2015
Abbottabad Bench
Authorized Under Sec 75 Acts Ordms.

63

PESHAWAR HIGH COURT ABBOTTABAD BENCH.
FORM "A"
FORM OF ORDER SHEET

Serial No of order or proceeding	Date of Order or Proceeding	ORDER OF THE COURT WITH SIGNATURE (s) OF HON'BLE JUDGE (s)
1	2	3
	28.03.2016	<p><u>WP No.1094-A/2015</u></p> <p>Present: Petitioner with M/S Abdul Aziz Khan Tanoli, and Noumanullah Malik, Advocates, for the petitioner.</p> <p>Mr. Muhammad Naeem Abbasi, AAG, for the respondents.</p> <p>****</p> <p><u>QALANDAR ALI KHAN, J:</u> At the outset, it was pointed out to the petitioner and her learned counsel that the services of the petitioner having been dispensed with and the major penalty of compulsory retirement from service imposed upon the petitioner vide Notification of the competent authority i.e. District Education Officer (Female) Haripur, dated 19.01.2016, a new situation has emerged accruing a fresh cause of action to the petitioner to challenge the Notification, but before the competent forum i.e. Khyber Pakhtunkhwa Service Tribunal, as not only matters pertaining to disciplinary proceedings against a civil servant but also other matter pertaining to the terms and conditions of a civil servant fall within the jurisdiction of the Khyber Pakhtunkhwa Service Tribunal under Article 212 of the Constitution of the Islamic Republic of</p>



[Handwritten signature]

Certified to be True Copy

Examiner
Peshawar High Court
Abbottabad Bench
Authorized Under Sec 75 Acts Ordms.

Pakistan, which bars the jurisdiction of other Courts including the High Court.

2. When the aforementioned legal position was explained to the petitioner and learned counsel for the petitioner, the petitioner and her counsel requested for a direction to the Director, Elementary and Secondary Education, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar, to whom departmental appeal has been preferred on 17.02.2016, to decide the departmental appeal at the earliest, enabling the petitioner to seek remedy available to her under the law in appropriate forum.

3. Therefore, the instant writ petition is disposed of in the terms that the departmental appeal pending decision with the Director, Elementary and Secondary Education, Peshawar, be adjudicated upon at the earliest but in no case beyond the period prescribed by the law for the purpose, where-after, the petitioner, if still aggrieved of the final order of the departmental appellate authority may have recourse to the remedy available to her under the law.

Announced.
Dt.28.03.2016.

So. Judge

Certified to be True Copy
31/3/16
Examiner
Peshawar High Court
Abbottabad Bench
Authorized under Sec 75 Acts Ordinance

بخدمت جناب ڈائریکٹر صاحب محکمہ تعلیم ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن، پشاور

65

محکمانہ اپیل برخلاف آفس آرڈر نمبر 54-446 مورخہ 19/01/2016 جس کے تحت بغیر کسی انکوائری کے یا اپیلانٹ کو سننے کے Personal Hearing یا دیگر قانونی ضروری تقاضے پورے کرنے کے اور بغیر اپیلانٹ کی 27 سالہ سروس کو مد نظر رکھنے کے غیر قانونی طور پر ملی بھگت سے اور ذاتی عناد کی بناء پر اپیلانٹ کو میجر Punishment دیتے ہوئے جبری ریٹائرمنٹ کا آرڈر کیا جو غلط، خلاف قانون، خلاف انصاف، خلاف واقعات ہونے کے ساتھ ناقابل بحالی اور قابل منسوخی ہے۔

جناب عالی! محکمانہ اپیل ذیل عرض ہے۔

۱- یہ کہ اپیلانٹ محکمہ تعلیم میں بطور PST ٹیچر گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول غلام آباد میں اپنے فرائض با احسن سرانجام دے رہی تھی اور بوقت Impugned آرڈر اپیلانٹ کی محکمہ ہذا میں 27 سال سروس مکمل ہو چکی تھی۔

Attested
Huseena Shaheen

۲- یہ کہ اپیلانٹ کو بذریعہ آرڈر نمبر 93-2088 مورخہ 08/11/2012 کے تحت گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول کا کاسے گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول اعوان موہڑہ ٹرانسفر کیا گیا اور بعد ازاں بذریعہ آرڈر نمبر 84-879 مورخہ 07/11/2013 کو اپیلانٹ کو چھوڑ شریف میں عارضی Adjust کرنے کا آرڈر کیا گیا جہاں پر اپیلانٹ اپنے فرائض منصبی سرانجام دیتی رہی۔ آرڈر لف ہے۔

۳- یہ کہ ہیڈ ٹیچر گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول غلام آباد نے بذریعہ درخواست + ڈسٹرکٹ ایجوکیشن

آفیسر (زنانہ) ہری پور کو استدعا کی کہ میرے سکول میں بچیوں کی تعداد زیادہ ہے لہذا مجھے ایک مزید ٹیچر دی جائے۔ درخواست لف ہے۔

۴۔ یہ کہ ہیڈ ٹیچر گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول غلام آباد کی درخواست پر ایپلانٹ کو گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول غلام آباد میں بحکم ADO سرکل مس شائستہ ایڈ جسٹ کیا گیا جس پر ایپلانٹ نے اپنی پوسٹ کا چارج لیا اور وہاں سے تنخواہ وصول کرتی رہی اور اس بات کو انکو آفیسر نے اپنی رپورٹ جو انکو آفیسر نے ایپلانٹ کی درخواست پر برخلاف عزرہ آفریدی کی گئی میں تسلیم کیا کہ ایپلانٹ بحکم ADO سرکل شائستہ غلام آباد سکول میں ڈیوٹی سرانجام دے رہی ہے۔ نقل چارج رپورٹ لف ہے۔

۵۔ یہ کہ ایپلانٹ نے ماہ اگست میں سب ڈویژنل ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کو ایک درخواست دی کہ میں باقاعدگی سے اپنی ڈیوٹی گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول غلام آباد میں سرانجام دے رہی ہوں اور میری تنخواہ نامعلوم وجوہات کی بناء پر بند کر دی گئی ہے جس پر ایپلانٹ کی تنخواہ گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول غلام آباد میں واگزار کی گئی۔ نقول درخواست ادا نیگی تنخواہ وارڈر ادا نیگی تنخواہ لف ہے۔

Attested
HMJseenashahen

۶۔ یہ کہ بعد ازاں مورخہ 10/08/2015 کو ایپلانٹ کو شوکانوٹس جاری کیا گیا جس میں یہ الزام لگایا گیا کہ مورخہ 08/11/2012 کو تمہاری ٹرانسفر گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول اعوان موہڑہ میں کی گئی اور تم غلام آباد میں ڈیوٹی سرانجام دے رہی ہے دوسرا الزام یہ لگایا گیا کہ 01/09/2014 سے 24/09/2014 دن اور 21/01/2015 سے 05/02/2015 دن غیر حاضر ہو جس کا ایپلانٹ نے تفصیلی جواب مع ریکارڈ دیا کہ ایپلانٹ کو اعوان موہڑہ میں ٹرانسفر کرنے کے بعد بذریعہ آرڈر 80-879 مورخہ 07/04/2013 چھوڑ شریف میں عارضی طور پر Till furtehr order ایڈ جسٹ کیا گیا اور بعد ازاں گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول غلام آباد کی ہیڈ ٹیچر کی درخواست پر مورخہ 06/02/2015 کو غلام آباد میں ایڈ جسٹ کیا گیا۔ جہاں پر ایپلانٹ نے چارج لیا اور سکول مذکورہ کے حاضری رجسٹر میں ایپلانٹ کی حاضری موجود ہے۔ مزید برآں کے ADO سرکل نے سالانہ معائنہ سکول مذکور کیا جس کا لاگ بک میں ایپلانٹ کا نام موجود ہے اور جہاں تک

سوال غیر حاضری کا ہے تو اپیلانٹ نے غیر حاضری نہ کی بلکہ اپنی چھٹی کی درخواست مع میڈیکل ٹھیکیت ارسال کیے۔ اور بمطابق قانون اگر یہ تصور بھی کیا جائے کہ اپیلانٹ کی غیر حاضری ہے تو غیر حاضری کا عرصہ ٹوٹل 40 دن بنتا ہے تو اپیلانٹ کی 27 سال سروس ہے جو اپیلانٹ کی چھٹی میں Adjust کیا جاسکتا ہے۔ اور پھر اپیلانٹ نے میڈیکل چھٹی کی درخواستیں دی جو کسی صورت میں بمطابق قانون قابل رد نہ ہے اگر کسی بھی صورت میں اپیلانٹ کی چھٹی کو تسلیم نہ بھی کیا جائے تو 40 دن کی غیر حاضری کا عرصہ بغیر تنخواہ تصور کیا جاسکتا تھا۔

۷۔ یہ کہ دوبارہ اپیلانٹ کی تنخواہ ذاتی عناد ملی بھگت اور غیر قانونی طور پر بغیر کسی تحریری آرڈر کے بند کر دی گئی جس کی واگزار کی کے لئے محکمہ کو درخواست دی گئی۔ لیکن نہ واگزار کی گئی تو باہر مجبوری اپیلانٹ کو پشاور ہائی کورٹ ایبٹ آباد بینچ میں رٹ پٹیشن نمبر 1094-A/2015 داخل کرنی پڑی۔ اپیلانٹ کی اس رپٹ پٹیشن پر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر (زنانہ) ہری پور عدالت میں آئی اور اس نے کوئی ایسا موقوف نہ پیش کیا کہ اپیلانٹ اپنی سروس سے غیر حاضر ہے بلکہ اُس نے صرف عدالت میں یہ بتایا کہ اپیلانٹ کی ٹرانسفر مورخہ 14/01/2012 کو اعوان موہڑہ میں ہوئی ہے وہاں ڈیوٹی سرانجام دے نہ کہ غلام آباد جس پر اپیلانٹ نے عدالت کو بتایا کہ تحریری آرڈر عدالت میں دیا جائے اپیلانٹ کسی بھی جگہ ڈیوٹی سرانجام دینے کے لئے تیار ہے۔ عدالت نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کو حکم دیا کہ آئندہ تاریخ مورخہ 21/01/2015 کو اپیلانٹ کا مسئلہ حل کر کے عدالت میں آئیں۔

Attested
Huseena Shaheen

۹۔ یہ کہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر زنانہ ہری پور نے بجائے اپیلانٹ کا مسئلہ حل کرنے کے انتہائی عجلت میں بغیر کوئی قانونی تقاضے پورے کیے، بغیر کسی انکوائری کیے یا اپیلانٹ کو سننے کے ذاتی عناد اور ملی بھگت سے بغیر اپیلانٹ کی 27 سالہ سروس کو مد نظر رکھنے کے یک جنبش قلم اپیلانٹ کو نوکری سے جبری ریٹائر کرنے کا آرڈر بذریعہ آرڈر نمبر 54-446 مورخہ 19/01/2016 تحت خیبر پختونخواہ گورنمنٹ سرونٹ سول سرونٹ ایکٹ 2011 صادر فرمادیا۔ نقول آرڈر لف ہے۔

۱۰۔ یہ کہ مذکورہ Impugned آرڈر میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نے یہ موقوف اختیار کیا کہ اپیلانٹ کو جو شوکا ز نوٹس جاری کیے گئے ان میں اپیلانٹ کو ڈیوٹی پر حاضری کے لئے کہا گیا جبکہ

ایسا کوئی شوکا ز نوٹس اپیلانٹ کو جاری نہ کیا گیا جس میں اپیلانٹ کو ڈیوٹی پر حاضری کے لئے کہا گیا ہو بلکہ جو شوکا ز نوٹس جاری کیے گئے ان میں اپیلانٹ کو شوکا ز نوٹس کا جواب دینے کے لئے کہا گیا ہے اور اپیلانٹ نے تفصیلی جواب معہ نقول ریکارڈ کے دیا اور اپیلانٹ کے معقول جواب و ریکارڈ کی روشنی میں اپیلانٹ پر لگائے گئے الزامات غلط اور بے بنیاد ہیں۔

11- یہ کہ اپیلانٹ کو اُس کی سروس سے جبری ریٹائرمنٹ کا آرڈر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر (زنانہ) کی طرف سے جاری کردہ Impugned order بذات خود ظاہر کرتا ہے کہ آرڈر مذکور غلط اور خلاف قانون ہے اور قانونی تقاضوں کو پامال کرتے ہوئے کہا گیا کہ اپیلانٹ نے شوکا ز نوٹس کا جواب دفتر میں بھی کروایا اور بذریعہ ڈاک بھی ارسال کیا جن کی رسیدات موجود ہیں تو ایسی صورت میں اپیلانٹ کے خلاف یکطرفہ کارروائی کرنا انصاف کے فطری اصولوں کے خلاف ہے اور اگر یکطرفہ کارروائی کرنا مقصود تھی تو قانون کی روشنی میں دو قومی اخبار میں اشتہار جاری کروا کر کی جاسکتی تھی اور جہاں تک یکطرفہ کارروائی کے بارے میں کہا گیا ہے کون سی شہادت ہے جس کی بناء پر الزام اپیلانٹ کے خلاف ثابت ہوئے کسی ایک شہادت کا پر بھی نہ تو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نے حوالہ دیا کہ کس شہادت کی بناء پر الزام برخلاف اپیلانٹ ثابت ہے نیز اپیلانٹ نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ز نانا نہ کو درخواست دی کہ اگر اپیلانٹ کے خلاف کوئی انکوآری کی گئی ہے تو اُس کی کاپی اپیلانٹ کو دی جائے لیکن اپیلانٹ کو اُس کی کاپی بھی نہ دی گئی۔


Attested
Huseenashaheen

بحالات بالا استدعا ہے کہ بمنظوری اپیل ہذا آرڈر عنوان اپیل برخلاف اپیلانٹ منسوخ فرمایا جاوے اور اپیلانٹ کو اُس کی سروس پر معہ جملہ فوائد ملازمت کے (Back Benefits) نوکری پر بحال کرنے کا آرڈر صادر فرمایا جاوے۔

المرقوم: 16/02/2016

حسینہ شاہین معرفت راجپوت نیلام گھرنز دسلک وے پلازہ، جی ٹی روڈ، ہری پور

Huseenashaheen



(حصہ دوم)

لاگ بک

ریپورٹ کی روشنی میں سکول
انتظامی نے جو کارروائی کی۔

رائے / ریپورٹ معائنہ

سر ایف ایم صفی صاحب نے ریپورٹ کو دیکھا اور
14 فروری 2019 کو
کے لئے ریپورٹ معائنہ کیا اور
تمام معاملات جاننے کیلئے

سکول نشانی

سر ایف ایم صفی	15	BPS
سر عبدالرشید	17	BPS
جنرل مہتاب	12	BPS

بھارت :- سرکار کے 25 ہفتے کمروں اور دو بڑے
کمرے منتقل ہیں۔ ایک باڈی روم ہے۔ بجلی ہے۔ پانی
کے انتظام میں ہیں۔ عارضی طور پر جو کچھ ہمارے پاس
تعمیراتی حالت
پورے معائنہ کے دوران

تعمیراتی حالت اچھی ہے۔ تمام پھولوں سے تمام
مضامین کے سوالات پوچھے گئے۔ جن
پر تسلیم بخش جواب دیے
جائزہ والے تیار

500 روپے سے ایشیا میں سعید پر
انٹرنیشنل ریسرچ۔ آزاد کے سوالات
تسلیم بخش جواب دیے۔
انٹرنیشنل ریسرچ میں اچھی کی ہے۔
رہا جس کے سوالات بہت جلدی حل کر کے
ارڈر کے الفاظ معنی اور شکل میں کر کے دکھائے

لاگ
—

Attested
Huseenashakeen

لاکھپور (ہفتہ دوم)

رپورٹ کی روشنی میں سکول
انتظامیہ نے جو کارروائی کی۔

رائے رپورٹ منجانب سے

۱۶۱ کلاس میں

36d کلاس میں ڈیکریٹ میں حتمی نتائج

۱۶۱ کلاس میں سے۔ چونکہ یہ رماہی کلاس ہے اس لیے اس سے لیا گیا

سوال کرتے دکھانا

انگلیش کی ریڈنگ Words meanings

کرتے دکھائے۔

جنوعی طور پر لکھنا نام عمل ہے۔

اردو میں سب بچوں نے سبق پڑھ کر سنا

36d کلاس میں سے رماہی کا سوال ہے

تقریب کیا۔ آئندہ عمل لکھیں۔

انگلیش میں سب بچوں نے ریڈنگ کی

ریڈنگ ذرا کمزور ہے۔

اردو میں سب بچوں نے سبق پڑھا

2nd کلاس میں ڈیکریٹ میں متعدد بچوں

رماہی میں سوال دو بچوں کے لیے تھے

سوال صحیح حل کیا۔

اردو میں چند سوال سب بچوں نے صحیح

پڑھ کر

انگلیش کی ریڈنگ کم ہے اس لیے تقریباً

بچوں نے صحیح

28

(حصہ دوم)

لاگت

رپورٹ کی روشنی میں سکول
اقتدار نے جو کاروائی کی۔

رائے رپورٹ معائنہ

1st کلاس میں پندرہویں نمبر سلاطین

انگلش میں Kite, Mango, Tree
Spelling پر چوکہ پڑوں تے بتائے۔
شوقی طور پر پڑھوں کی حالت نامہ ملے۔

ریاضی میں چھوٹے بڑے عدد کو پہچان کر کے
دکھائی تھی۔ تقریباً پچیس کا لکھنا تھا۔
اور وہ میں لفظ کی پہچان ہے۔ تقریباً پچیس
نے دیکھا کہ جو کہ درست تھی۔

۱۲۹ کلاس میں پندرہویں نمبر سلاطین

اور وہ میں سبق سنا گیا۔ جسے سن سے پھر
تیس سے ڈالہ ماری اور شروع پہچان لیا تھی۔
انگلش میں پندرہویں نمبر ۸ سے لاکھ اور
۱۰۰۰ تک نقطہ انگریز تے حروف

کھوئے گئے۔
ریاضی میں گنتی آہن سے دس تک سنا تھی
اور بلبل۔ لکھنے پر لیا گیا۔ لکھنے پر لیا گیا
کلاس کر بتائے۔ شوقی طور پر کلاس
کرتے۔

Attested
Huseenashaheen

لاگ بک (حصہ دوم)

رپورٹ کی روشنی میں سکول
اقتدار نے جو کاروائی کی۔

رائے رپورٹ معائنہ

جنرل زعمائیں :

جمہوری طور پر صاف ستھرا اسکول بنا گیا
عام ٹیچرز جو خود نہیں سکول کی تعلیمی
حالت بہتر تھی۔ اس کو مزید بہتر بنانے
کی ضرورت ہے۔ تمام بچے اپنی کلاسوں میں
جوڑ رکھے۔ بچے بڑھانے میں تامل نہیں
ڈیپارٹمنٹ کو دیا جائے گا اس سے بڑھ کر تعلیمی
حالت کو بہتر بنانے میں محروم کو مشن کرے

Shahid
Assistant
District Officer (F)
Education, Mirpur
14-2-2015

72

حاضری نمبر لسٹیں درج ذیل پر لکھی گئی ہیں (مختار آباد)

بابت ماہ - مارچ ۱۹۷۵											
حاضری نمبر لسٹیں						حاضری نمبر لسٹیں					
تاریخ	آدم	دستخط	روایتی	آدم	دستخط	تاریخ	آدم	دستخط	روایتی	آدم	دستخط
1	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA
2	NA	NA	NA	NA	NA	2	NA	NA	NA	NA	NA
3	NA	NA	NA	NA	NA	3	NA	NA	NA	NA	NA
4	NA	NA	NA	NA	NA	4	NA	NA	NA	NA	NA
5	NA	NA	NA	NA	NA	5	NA	NA	NA	NA	NA
6	NA	NA	NA	NA	NA	6	NA	NA	NA	NA	NA
7	NA	NA	NA	NA	NA	7	NA	NA	NA	NA	NA
8	NA	NA	NA	NA	NA	8	NA	NA	NA	NA	NA
9	NA	NA	NA	NA	NA	9	NA	NA	NA	NA	NA
10	NA	NA	NA	NA	NA	10	NA	NA	NA	NA	NA
11	NA	NA	NA	NA	NA	11	NA	NA	NA	NA	NA
12	NA	NA	NA	NA	NA	12	NA	NA	NA	NA	NA
13	NA	NA	NA	NA	NA	13	NA	NA	NA	NA	NA
14	NA	NA	NA	NA	NA	14	NA	NA	NA	NA	NA
15	NA	NA	NA	NA	NA	15	NA	NA	NA	NA	NA
16	NA	NA	NA	NA	NA	16	NA	NA	NA	NA	NA
17	NA	NA	NA	NA	NA	17	NA	NA	NA	NA	NA
18	NA	NA	NA	NA	NA	18	NA	NA	NA	NA	NA
19	NA	NA	NA	NA	NA	19	NA	NA	NA	NA	NA
20	NA	NA	NA	NA	NA	20	NA	NA	NA	NA	NA
21	NA	NA	NA	NA	NA	21	NA	NA	NA	NA	NA
22	NA	NA	NA	NA	NA	22	NA	NA	NA	NA	NA
23	NA	NA	NA	NA	NA	23	NA	NA	NA	NA	NA
24	NA	NA	NA	NA	NA	24	NA	NA	NA	NA	NA
25	NA	NA	NA	NA	NA	25	NA	NA	NA	NA	NA
26	NA	NA	NA	NA	NA	26	NA	NA	NA	NA	NA
27	NA	NA	NA	NA	NA	27	NA	NA	NA	NA	NA
28	NA	NA	NA	NA	NA	28	NA	NA	NA	NA	NA
29	NA	NA	NA	NA	NA	29	NA	NA	NA	NA	NA
30	NA	NA	NA	NA	NA	30	NA	NA	NA	NA	NA
31	NA	NA	NA	NA	NA	31	NA	NA	NA	NA	NA

72

گارج

دستخط پرنسپل ماسٹر
25/3/75

Attested
Huseenashahen

Huserna shaherh

Attested

Maharashtra

क्र.सं.	नाम	व.सं.	व.सं.	व.सं.	व.सं.	व.सं.	व.सं.	व.सं.	व.सं.	व.सं.	व.सं.	व.सं.	व.सं.	व.सं.	व.सं.	व.सं.
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																
31																
32																
33																
34																
35																
36																
37																
38																
39																
40																
41																
42																
43																
44																
45																
46																
47																
48																
49																
50																
51																
52																
53																
54																
55																
56																
57																
58																
59																
60																
61																
62																
63																
64																
65																
66																
67																
68																
69																
70																
71																
72																
73																
74																
75																
76																
77																
78																
79																
80																
81																
82																
83																
84																
85																
86																
87																
88																
89																
90																
91																
92																
93																
94																
95																
96																
97																
98																
99																
100																

...

73

...

2

Husein Shaker

Attested

1958-59

روز		روز		روز		روز		روز		روز		روز	
روز	روز	روز	روز	روز	روز	روز	روز	روز	روز	روز	روز	روز	روز
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													

74



Dr. Naveed Hossain
2016/8/26

Accepted
By
Signature

2016 | 8 | 26

بھیجنا ہے۔

بھیجنا ہے۔

بھیجنا ہے۔

بھیجنا ہے۔

بھیجنا ہے۔

بھیجنا ہے۔

بھیجنا ہے۔

بھیجنا ہے۔

بھیجنا ہے۔

بھیجنا ہے۔

بھیجنا ہے۔

بھیجنا ہے۔

بھیجنا ہے۔

بھیجنا ہے۔

بھیجنا ہے۔

بھیجنا ہے۔

بھیجنا ہے۔

بھیجنا ہے۔

بھیجنا ہے۔

بھیجنا ہے۔

بھیجنا ہے۔

بھیجنا ہے۔

بھیجنا ہے۔

بھیجنا ہے۔

بھیجنا ہے۔

بھیجنا ہے۔

بھیجنا ہے۔

بھیجنا ہے۔

بھیجنا ہے۔

BEFORE THE SERVICE TRIBUNAL PESHAWAR KPK

S/A 615/16

SERVICE APPEAL NO 615/2016

Haseena Shaheen PST GGPS Ghulam AabadThsil& District Haripur C/o Rajput
NeelamGhar Near Silk Way Palza G.T Road Haripur

(Appellant)

VERSUS

1. Government of Khyber Pakhtunkhwa through Secretary E&SE Department,
Peshawar.etc (Respondents)

INDEX

S.No	Description of Documents	Annex	Pages
1	Para wise Reply / Comments		1-4
2	Affidavit		5
3	Copy of Inquiry Report	A	
4	Copy of Notification No 3664-67 dated 24-07-2014.	B	
5	Charge Sheet ,Statement Allegation ,Show Cause Letters	C&D	
6	Copy of Application	E	
7	Receipt	F	
8			

Through


1/9/16
Respondents

126

BEFORE THE SERVICE TRIBUNAL PESHAWAR KPK

**SERVICE APPEAL NO
615/2016**

**Haseena Shaheen PST GGPS Ghulam AabadThsil& District Haripur C/o Rajput
NeelamGhar Near Silk Way Palza G.T Road Haripur**

(Appellant)

VERSUS

**1. Government of Khyber Pakhtunkhwa through Secretary E&SE Department ,
Peshawar.etc** **(Respondents)**

Respectfully Sheweth:-

Reply / Comments for & on behalf of respondent No: 1,2,

Preliminary Objections

Respectfully Sheweth:-

1. That the appellant has no cause of action.
2. That the appellant has not come to this Honorable Tribunal with clean hands.
Hence the appellant is not entitled for any relief and appeal and is liable to be dismissed.
3. That the appellant has got no locus standi to file the instant Appeal.
4. That appellant has concealed the material facts from this honorable Tribunal, hence liable to be dismissed.
5. That the appellant has filed the instant appeal on malafide motives.
6. That the appellant has filed the instant appeal just to pressurize the respondents.
7. That the appeal is barred by law and time
8. That the instant service appeal is against the prevailing law and rules.
9. That the appellant has been treated as per law ,rules and policy.
10. That the appeal is not maintainable in its present form.
11. That the instant appeal is bad for misjoinder and non joinder of the necessary parties Hence liable to be dismissed.
12. That the impugned notification 446-54 dated 19-01-2016 issued by the authority after fulfillment of all legal formalities hence appeal is liable to be dismissed without further proceeding.

Reply /Comments on facts.

- 128
1. Para 1 pertains to the service record of the appellant while it is denied that the appellant rendered her services honestly and diligently to the utmost satisfaction of her superiors. Complaint of absence was registered against her by IMU. A proper enquiry was held and she was compulsorily retired as a result of that lawful enquiry hence the whole Para is denied. **(Copy of enquiry report is attached as annexure A)**
 2. Correct to the extent that she was adjusted in GGPS Awan Mohra and then she was temporarily adjusted in GGPS Chohar Shareef.
 3. Incorrect and not admitted. Appellant was absent in GGPS CHOCHAR SHAREEF for 24 days, from 1-09-2014 to 24-09-2014 without sanction of leave and proper procedure. Moreover detailment and temporary adjustment were canceled vide **Notification No.3664-67 dated 24-07-2014**. She was informed and relived from her duties in GGPS Chohar Shareef. She took charge in GGPS AWAN Mohara her original posted school and was absent from 21-01-2015 from school without any sanction of leave. Statement of this Para is also without any legal proof, baseless and against the facts and records. **(Copy of Notification No.3664-67 dated 24-07-2014.)**
 4. Incorrect and not admitted. The appellant was willfully absent from GGPS AWAN MOHRA and no other order of transfer/ adjustment /temporary order was issued by the competent authority. Thus she was liable to perform her duties at GGPS AWAN MOHRA but she did not attend any school, which clearly shows that appellant remained absent from her duty. All documents of appellant are faked and self-made.
 5. Incorrect and not admitted. Competent authority did not issue any transfer /adjustment order regarding her performance of duties in GGPS GHULAMABAD, hence the whole para is denied.
 6. Incorrect and not admitted the statement of appellant and this Para of plaint is misleading the fact.
 7. Incorrect and not admitted she was directed to perform her duties in GGPS AWAN MOHRA but she took charge and willfully absent from her duties.
 8. Incorrect and not admitted the appellant was willfully absent from her duties from 21-01-2015 till the completion of enquiry report and she was asked again and again but she did not appear, and was compulsorily retired from service as a result of fair legal and lawful inquiry by competent authorities due to her willful continuous absence from duty, in accordance with the law rules/policy. **(Complete inquiry report ,Charge sheet, Statement of allegation and show cause notice along letter of personal hearing are attached as annexure A, B , C & D)**. Moreover all the required

official procedure regarding the disciplinary action was observed properly well in time.

124

9. Correct to the extent that the salary of appellant was released on her request and on application she wrote her school name GGPS Ghulamabad. Remaining para is denied. **(Copy of the Application is annexure E)**
10. Incorrect and not admitted she was mostly absent in school and regularly show cause notices were served upon her but she did not appear for personal hearing and still was absent in her school. Remaining para is denied.
11. Incorrect and not admitted she was relieved from GGPS Chohar Shareef and took charge in GGPS Awan Mohra and did not perform duties after taking over charge. The log book provided by Appellant is showing the performance of GGPS Chohar Shareef not of the GGPS Ghulam Abad.
12. Incorrect and not admitted the action of the department is legal lawful and according to the rules moreover neither discriminatory nor arbitrary.
13. Correct to the extent that show cause notices were from the competent authority.
14. Correct to the extent that the salary was stopped due to her continuous absence from her duties.
15. Incorrect and not admitted she refused to come before any inquiry committee and competent authority to avail the opportunity of personal hearing.
16. Incorrect and not admitted. Respondents acted as per rules and laws.
17. Incorrect and not admitted. She was provided all the relevant record .
18. Incorrect and not admitted detail reply is already given in para 8.
19. Correct to the extent of W.P and judgment.
20. Incorrect. However there is no concept of second departmental appeal under law.
21. Para 21 is subject to record.

Grounds.

- A. The action of the department is legal lawful and according to the rules moreover neither discriminatory nor arbitrary. While the present appeal is based on malafide hence liable to be dismissed.
- B. Incorrect and not admitted the appellant was given number of time good opportunities of personal hearing but she never appear the whole enquiry proceeding was conducted in accordance with laws and material facts and records. **(Show cause letter and letters for personal hearing attached as Annexure D)**



- C. Incorrect and not admitted no transfer and adjustment order of appellant was issued by competent authority to perform duties in GGPS Ghulam Abad. She had no choice to choose a school for duties and she was absent from her school throughout the proceedings which show her fraudulent attitude.
- D. Incorrect and not admitted all the actions of the department against appellant is lawful and justified as she was absent without sanction of leave and proper information. As detail reply is given in PARA 8 & 11.
- E. Incorrect and not admitted the fair opportunities of personal hearing were given to her but she did not appear.
- F. Incorrect and not admitted the action of the department was not arbitrary and discriminatory hence whole para is denied.
- G. Incorrect and not admitted. Proper charge sheet & statement of allegation issued to her.
- H. Incorrect and not admitted all the allegations against the appellant were proved through lawful enquiry while, it is denied that the appellant rendered her service honestly and diligently to the utmost satisfaction of her superior Hence whole para is denied.
- I. Incorrect and not admitted all record was provided to her as the **Receipt of inquiry report is annexure.(F)**
- J. Incorrect and not admitted all the allegations against the appellant were proved through lawful enquiry .Hence whole para is denied. Without any transfer/adjustment order of competent authority, she was not liable to perform her duties according to her own choice and will hence, whole para is denied.
- K. Incorrect and not admitted.
- L. This para is legal .More ever the respondents seek the permission of the Honorable court to present more grounds and proofs at the time of hearing.

Prayer:

In the view of the above submission it is requested that this Honorable Tribunal may graciously be pleased to dismiss the petition of petitioner with cost please.

Respondents.

- 1. The Director Elementary &Secondary Education Peshawar Respondent No: 2
- 2. District Education Officer(F) Haripur


 15/9/2016

 11/9/16

OFFICE OF THE PRINCIPAL GOVT: GIRLS HIGH SCHOOL SARAI SALEH H.PUR.

165 /Inquiry / File.

Dated S/Saleh the 20/10/2015.

To,

The District Education Officer,
(Female) District Haripur.

Subject: - **Inquiry against Mst Haseena Shaheen PST Awan Mohra.**
Memo,

With reference your letter No. 9332/DEO (F)/Haripur/Estb;Pry/Discp Act
Dated Haripur the 05-10-2015 subject cited above.

Allegation:-

1. **Willful Absente.**

Haseena Shaheen was posted at GGPS Awan Mohara, She has been willfully absent from her duties GGPS Awan Mohra 21.01.2015.

2. She is continuously defying orders of the department by not complying with the order of her posting at GGPS Awan Mohra and Joins any other school wherever she wants.

3. She is guilty of violation of section 10, 15 of the civil servants Act 1973 and rules 22 and 34 of Govt Servants conduct Rules 1987.

Proceeding:-

A call letter for attendance to the enquiry committee on 13.10.2015 was served the alleged teacher Mst Hasseena Shaheen PST through ASDEO (F) Circle concerned, Similarly ASDEO (F) Circle concerned and SDEO (F) were called for the said fixed date for enquiry I.e. 13.10.2015.

Findings:-

The alleged teacher Mst Haseena Shaheen of GGPS Awan Mohra neither appeared in front of enquiry committee on the fixed date nor informed for her non attendance, but remained absent on the day. (Annex-A)

A questionnaire (in written) was served to SDEO (F) Haripur, A separate questionnaire (in written) was served to ASDEO (F) Haripur Circle concerned.

In response to the questionnaire the SDEO (F) Haripur replied.

1 The SDEO (F) Haripur was aware of about the fact that she is posted at GGPS Awan Mohra but she is still working in GGPS Ghulamabad. (Annex-B)

2 Alleged teacher is creating problem for herself as time passes.

3 According to ASDE (F) after the cancellation of temporary order she went to Ghulamabad instead of GGPS Awan Mohra. (Annex-C)


4 She is already undergone the process of enquiry but failed to avail the chance of solving her problem because of her absentee in front of enquiry Officer.


According to ASDO (F) Circle concerned right now she is not working at any school.

Recommendation:-

After going into the enquiry process and responses of the SDEO (F) Haripur and ASDO (F) Circle concerned the enquiry committee is in view of that while the alleged teacher Mst Haseena Shaheen PST did not appeared in front of enquiry committee which shows her least interest towards the solution her case. It seems that she is guilty as she was given a second time opportunity to explain her stance toward her case but she failed to avail it.

It is therefore recommended that she should be treated under (Efficiency and disciplinary) rule 2011 or otherwise as per her case as it may be


Headmistress
GGHS, Mirpur.


Principal,
GGHS, S.Saleh.

A next B

OFFICE OF DISTRICT EDUCATION OFFICER (FEMALE)
HARIPUR
PH No. 0995-612552, 613244



NOTIFICATION:

It is to notify for all concerned that all kind of detailments of PST's (BPS-15/
BPS-14/BPS-12) & Class IV/ Caller are hereby cancelled w.e.f 10-07-2014. If anyone found
on detailment during visit / checking strict action will be taken again her /him.

4

District Education Officer (Female)
Haripur

ENDSTT: NO. 3664-67

DATED 24 / 07 / 2014.

Copy of above is forwarded for information to:-

1. The Director Elementary & Secondary Education Khyber Pakhtunkhwa Peshawar.
2. The Deputy commissioner District Haripur.
3. The District Monitoring Officer Haripur.
4. The SDEO (F) Haripur/ ASDEO (F) Circle concerned - With Director to ensure the implementation, in case of non compliance report should be submitted to the under signed for further necessary action.
5. Office file.

District Education Officer (Female)
Haripur

میں تو میرے شاہ کے لئے اسٹیٹ ڈرائیور کو سونپ دیا گیا ہے اور اسے 15-9-2014 سے
 15-9-2014 سے سونپ دیا گیا ہے اور اسے 15-9-2014 سے
 اسٹیٹ ڈرائیور کے لئے Recieve کیا گیا ہے
 Haideena Shaheen
 15-9-2014



(C)

**OFFICE OF THE
DISTRICT EDUCATION OFFICER (FEMALE)
HARIPUR**
(Office Phone No. 0995-613244 Fax No. 0995-615140)

CHARGE SHEET

1. I, Naheed Anjum, District Education Officer (F) Haripur, as competent authority, hereby charge you, Mst. Haseena Shaheen PST GGPS Awan Mohra Haripur, as follows:

That you, while posted as PST at GGPS Awan Mohra, committed the following acts/omissions:

- i. You have been willfully absent from your duties at GGPS Awan Mohra since 21-01-2015.
 - ii. You have been continuously defying orders of the department by not complying with the order of your posting at GGPS Awan Mohra and join any school wherever you want.
 - iii. You are guilty of the violation of section, 10 and 15 of the Civil Servants Act 1973 and rules, 22 and 34 of Government Servants Conduct Rules, 1987.
2. By reason of the above, you appear to be guilty of willful absenteeism and misconduct under rule 3 of the Khyber Pakhtunkhwa Government Servants (Efficiency and Disciplinary) Rules, 2011, guilty of the violation of section, 10 and 15 of the Civil Servants Act 1973 and rules, 22 and 34 of Government Servants Conduct Rules, 1987 and have rendered yourself liable to all or any of the penalties specified in rule 4 of the rules ibid.
3. You are, therefore, required to submit your written defence within seven days of the receipt of this Charge Sheet to the inquiry committee.
4. Your written defence, if any, should reach the inquiry committee within the specified period, failing which it shall be presumed that you have no defence to put in and in that case ex-parte action shall be taken against you.
5. Intimate whether you desire to be heard in person.
6. A statement of allegations is enclosed.

COMPETENT AUTHORITY



(C-)

**OFFICE OF THE
DISTRICT EDUCATION OFFICER (FEMALE)
HARIPUR**
(Office Phone No. 0995-613244 Fax No. 0995-615140)


DISCIPLINARY ACTION

1. I, Naheed Anjum, District Education Officer (F) Haripur, am of the opinion that Mst. Haseena Shaheen PST GGPS Awan Mohra Haripur has rendered herself liable to be proceeded against, as she has committed the following acts/omissions, within the meaning of rule 3 of the Khyber Pakhtunkhwa Government Servants (Efficiency and Disciplinary) Rules, 2011.

STATEMENT OF ALLEGATIONS

- i. **Willful Absenteeism:-**
While she was posted at GGPS Awan Mohra, she has been willfully absent from her duties at GGPS Awan Mohra since 21-01-2015.
- ii. **Guilty of Misconduct:-**
She has continuously defying orders of the department by not complying with the order of her posting at GGPS Awan Mohra and joins any school wherever she wants.
- iii. **Guilty of violation of Khyber Pakhtunkhwa Civil Servants Act 1973 and Government Servants Conduct Rules, 1987:-**
She is guilty of the violation of section, 10 and 15 of the civil servants Act 1973 and rules, 22 and 34 of Government Servants Conduct Rules, 1987.
2. For the purpose of inquiry against the said accuseds with reference to the above allegations, an inquiry committee consisting of the following, is constituted under rule 10 (1) of the ibid rules:
- i. Mrs SAmirna Mushtaq Principal GGHS Sarae Salah
- ii. Mrs Farzana Nayyar Headmistress GGHS Mir Pur
3. The inquiry committee shall in accordance with the provisions of the ibid rules provide reasonable opportunity of hearing to the accused, record its findings and make, within 15 days of the receipt of this order, recommendations as to punishment or other appropriate action against the accused.
4. The accused and a well conversant representative of the department shall join the proceedings on the date, time and place fixed by the inquiry committee.

COMPETENT AUTHORITY



(D)

**OFFICE OF THE
DISTRICT EDUCATION OFFICER (FEMALE)
HARIPUR**
(Office Phone No. 0995-613244 Fax No. 0995-615140)

SHOW CAUSE NOTICE


I, **Naheed Anjum**, as competent authority, under the Khyber Pakhtunkhwa Government Servant (Efficiency and Disciplinary) Rules, 2011, do hereby serve, Mst: Haseena Shaheen PST GGPS Awan Mohra Haripur as follows.

1. Whereas, as per report of the IMU E&SE Haripur, for the month of April 2015 you had been transferred to GGPS Awan Mohra vide this office order No.2088-93 dated 08/11/2012. However, you have not complied with the order and are still teaching at GGPS Ghulam Abad without any order.
2. Whereas, an inquiry was conducted against Mst: Azra Afridi ASDEO (F) Circle at your complaint, the inquiry officer has concluded that you remained willfully absent from duty from 01/09/2014 to 24/09/2014, (24 days) and again from 21/01/2015 to 05/02/2015 (16 days) and
3. that as per report of IMU E&SE and ASDEO Circle Pharhala you remained willfully absent from duty from GGPS Awan Mohra and show cause notices issued vide this office Endst: No.6092-93 dated 16/06/2015, 7781-85 dated 10/08/2015, 7838 dated 12/08/2015 and 81466-70 dated 21/08/2015.
4. That an inquiry was conducted against you, the inquiry officer has recommended that disciplinary proceeding initiated against you under Khyber Pakhtunkhwa Efficiency & disciplinary rules 2011.
5. On going through the finding and recommendations of the inquiry officer, material on record and other connected papers,

I am satisfied that you have committed the following acts/ omissions specified in rule 3 of the said rules.


- a) Guilty of Willful absenteeism ✓
- b) Guilty of Misconduct ✓
- c) You have ceased to be efficient ✓

1. As a result thereof, I, as competent authority, have tentatively decided to impose upon you "**One of the Major or minor penalties**" specified in rule 4 of the said rules.
2. You are, therefore, required to, show cause as to why the aforesaid penalty/penalties should not be imposed upon you and also intimate whether you desire to be heard in person.
3. If no reply to this notice is received within 07 days of its delivery, it shall be presumed that you have no defence to put in and in that case on ex-Parte action shall be taken against you.


(Naheed Anjum)
District Education Officer (Female)
Haripur
(Competent authority)

14247-51
Endst; No. ___ /DEO (F) Haripur/Estab; Pri /Haseena Shaheen Dated Haripur the 12/12/2015
Copy forwarded for information and n/action to the;

1. Director E & S Education Khyber Pakhtunkhwa Peshawar.
2. Deputy Commissioner Haripur.
3. Senior District Accounts Officer Haripur.
4. District Monitoring Officer E & SE Haripur.
5. Sub Divisional Education Officer (Female)
6. Master File.


District Education Officer (Female)
Haripur

مخدوم دستگاہ آئینہ (زنانہ) میرپور

جواب شوکار ٹوٹل

جناب عالی! موربانہ التماس ہے کہ آئینہ طرف سے مورخہ 7 دسمبر 2015 کو آئینہ شوکار ٹوٹل کی فوٹو کاپی ملی ہے جس کا پہلا نمبر جواب زیر عرض ہے۔

فقہہ بنا کے جواب میں عرض ہے کہ مجھے بذریعہ آئینہ آڈیٹ مورخہ 8 نومبر 2012 کو باہمی رہنما ہندوئی کا بناؤ پیر گورنمنٹ گریڈ پرائمری سکول انجمن موٹرہ ٹرانسپورٹ کیا گیا تھا جہاں پر میں نے 8 سے لے کر 7 نومبر 2013 تک اپنا ڈیوٹی سرانجام دی جس کے ثبوت میں گونوارہ پوسٹ 2012 گورنمنٹ گریڈ پرائمری سکول انجمن موٹرہ لفت جواب دیا ہے جس میں میرا نام جنوری 2013 تا نومبر 2013 تک موجود ہے۔ بعض اوقات بذریعہ آڈیٹ مورخہ 2013-11-11 کو مجھے عارضی طور پر چھوڑ کر لفت میں ایڈجسٹ کرنے کا آڈیٹ کیا گیا اور انجمن موٹرہ سے میری پوسٹ فٹم کر دی گئی بدیں وہ گونوارہ پوسٹ گورنمنٹ گریڈ پرائمری سکول انجمن موٹرہ میں ماہ کعبہ 2013 تا اکتوبر 2014 میں مرے نام کا اندراج نہ ہے لفت میں اور قابل ملاحظہ میں بعض اوقات لفت کی ٹرانسپورٹ آڈیٹ کیا گیا اور ایڈجسٹ آڈیٹ کے سہ سے نام کا اندراج کا گورنمنٹ گریڈ پرائمری سکول انجمن موٹرہ میں ماہ کعبہ 2014 اور ملی کفایت کا نتیجہ ہے اگر میرا کوئی ٹرانسپورٹ آڈیٹ گورنمنٹ آڈیٹ انجمن موٹرہ میں ہوتا تو کو ایسی صورت حال کے پیش نظر جب میری ایڈجسٹ چھوڑ کر لفت اور آئینہ کے بعد غلام آباد میں کیے انجمن موٹرہ میں ڈیوٹی سرانجام دیتی بدیں وہ گونوارہ پوسٹ میں ڈیوٹی سرانجام کا سوال ہے بنیاد نام مقول ہے۔

مجھے پیر میڈیٹ گورنمنٹ گریڈ پرائمری سکول غلام آباد کی درخواست پر پر جو آئینہ نے آئینہ کے حضور میں دی کہ میرے سکول میں بچوں کی تعداد زیادہ ہے مجھے ایک مزید ٹیچر دی جائے تو مجھے غلام آباد میں لفتیا ایڈجسٹ کرنے کا حکم بھیجا جو میں نے حکم پر عمل کرتے ہوئے گورنمنٹ گریڈ پرائمری سکول غلام آباد میں چارج لے کر وہاں پر اب تک ڈیوٹی سرانجام دے رہا ہوں اور وہاں سے ہی مجھے تنخواہ کی ادائیگی ہوتی رہی میرے موقف کا تاثر میں ایس۔ ڈی۔ ای۔ او زنانہ میرپور نے میری جانب سے دی جانے والی درخواست و انکوائری پر اپنے رعداد کس لکھے ہوئے کہا کہ سائیکل اپنی اصل پوسٹ لفت کر غلام آباد میں لفتیا ہے مزید میرا انکوائری آئینہ نے اپنے انکوائری میں تحریر میرا موربانہ کا کہہ دیا ہے میں کو نے رہا ہے اس طرح یہ کہنا بھی درست نہ ہے کہ میں بذات قواری اپنی مرضی سے غلام آباد میں ڈیوٹی سرانجام دے رہا ہوں۔

فقہہ نے کی بارے عرض ہے کہ میں یکم ستمبر 2014 سے 8 ستمبر 2014 تک گورنمنٹ گریڈ پرائمری سکول چھوڑ کر لفت میں ڈیوٹی سرانجام دیتی رہی وہم ماضی و جملہ لفت ہے اور 9 ستمبر 2014 سے لے کر 13 ستمبر 2014 تک میں بہار میں اور میں نے اپنی چھٹی کی درخواستیں جمع کر کے سر دفتر لفت ارسال کر دی ہیں۔ درخواستیں اور میڈیکل سرٹیفکیٹ لکھے گئے ہیں تاکہ وہ اندرون لکھے گئے ہیں اور سال کے

جو دفتر نے وصول کر کے اور ڈاک لفافہ پر ڈاک کیلئے واضح طور پر تحریر کیا کہ دفتر
 سے سے انکار ہے دوبارہ تمام درخواستیں اور میڈیکل سرٹیفکیٹ میں نے بذات
 خود دفتر میں باجو اعظم کو وصول کروائے اور وٹھوٹی کی رسید حاصل کی لیکن کچھ
 چھٹی کی نام منظوری کی بابت کوئی اطلاع نہ دی گئی جو کہ مطابق قانون اگر کسی کی چھٹی
 منظورین کی جاتی تو اطلاع دی جاتی ہے اور جہاں تک میڈیکل چھٹی کا تعلق ہے میڈیکل
 آفیسر کے پاس چھٹی پر صورت میں قابل منظوری ہے لیکن میڈیکل آفیسر سے کنڈ Opinion
 دخواستیں میں میڈیکل سرٹیفکیٹ لفٹ میں ڈاک لفافہ چھپر ڈاک کیلئے قلمی تحریر ہے لفٹ ہے

اس بعد غیر جانبداری جو شوکار ٹونٹ میں 2015 کے قلمی تحریر ہے لفٹ ہے
 جہاں جاتی حیثیت اکتاس ہے کہ 2015 کے قلمی تحریر ہے لفٹ ہے اور انکو اس کی بابت عرض تحریر ہے۔
 رکھی ہے میں پیش ہونے کے لیے ایس۔ ڈی۔ ای۔ اور زنانہ کے پاس پیش ہونے کے
 لیے گئی تھی اس بابت لیٹر 2015 کے قلمی تحریر ہے لفٹ ہے اور انکو اس کی بابت عرض تحریر ہے۔
 اب یہ جنوری تا 5 فوری کے عدالت کی بابت عرض خدمت یہ ہے کہ 2015 کے قلمی تحریر ہے لفٹ ہے اور انکو اس کی بابت عرض تحریر ہے۔
 خبر دہی میں بیمار تھی جس کی چھٹی کی بابت باقاعدہ درخواستیں اور میڈیکل سرٹیفکیٹ
 ارسال کرتی رہی اور بعد ازاں موت یا بے خبری پر عرض ہے کہ 2015 کے قلمی تحریر ہے لفٹ ہے اور انکو اس کی بابت عرض تحریر ہے۔
 اور میڈیکل سرٹیفکیٹ بذریعہ جسٹس ڈاک بھی ارسال کیے تھے نقل رسید ہے

فقہہ کی بابت عرض خدمت یہ ہے کہ میں نے تفصیلی جواب فقہہ غائبہ کی دیا ہے لیکن
 اس کے باوجود غلط کر رہی ہوں کہ عرض ہے کہ 2012 کو باہمی رضامندی کا بناو میرا بہادر لہ اعوان
 میرا جہاں 2012 سے کر 2013 تک میں ڈیوٹی سرانجام دیتی رہی اور 2013 کو کچھ عارضی
 طور پر چھوڑ کر 2013 سے 2015 تک میں ڈیوٹی سرانجام دیتی رہی اور 2015 کو کچھ عارضی
 کے بعد میرا تہ تو کوئی مدت آئی اور بعد ازاں اس کے بعد میں غائبہ کی بابت عرض خدمت یہ ہے کہ 2015 کے قلمی تحریر ہے لفٹ ہے اور انکو اس کی بابت عرض تحریر ہے۔
 جواب کا تعلق ہے میں نے تمام شوکار ٹونٹ میں 2015 کے قلمی تحریر ہے لفٹ ہے اور انکو اس کی بابت عرض تحریر ہے۔
 بناو میرا جہاں 2012 سے کر 2013 تک میں ڈیوٹی سرانجام دیتی رہی اور 2013 کو کچھ عارضی
 میرے جواب غائبہ کے بارے میں یا اس کی اپنا پرکھتے تھے کہ 2015 کے قلمی تحریر ہے لفٹ ہے اور انکو اس کی بابت عرض تحریر ہے۔
 خدمت جو الزامات لگائے جارہے ہیں وہ بالکل غلط اور بے بنیاد ہیں جن کا حقیقت سے قطعاً کوئی
 تعلق نہیں ہے جسے تحریری آرڈر سے ذریعہ جہاں بھی سروس سرانجام دینے کا آرڈر کیا گیا تو میں
 آرڈر کو obey کروں گی

فقہہ غائبہ کی بابت عرض ہے کہ اگر کوئی انکو اس کی کسی ہے تو وہ میری غیر موجودگی میں کی گئی ہے جسکا بابت
 مجھے علم نہ تھا بناو میرا جہاں 2012 سے کر 2013 تک میں ڈیوٹی سرانجام دیتی رہی اور 2013 کو کچھ عارضی
 خدمت کا تعلق ہے میں نے تمام شوکار ٹونٹ میں 2015 کے قلمی تحریر ہے لفٹ ہے اور انکو اس کی بابت عرض تحریر ہے۔
 فقہہ غائبہ کی بابت عرض ہے کہ اگر کوئی انکو اس کی کسی ہے تو وہ میری غیر موجودگی میں کی گئی ہے جسکا بابت
 Defiance پیش کریں لیکن مجھے توقع ہے کہ بالفیضہ کسی ریکارڈ کی کاپیاں دینے کے بعد غلط کوئی جہاں کا
 میری تنخواہ ماہ جون، جولائی، اکتوبر، نومبر و تا حال محکمہ لیفر کی تحریری آرڈر کے بغیر کسی عقول وجہ کے
 بار بار درخواستیں دینے کے باوجود آمد ریکورڈ کی کوئی سرانجام دینے کے باوجود وزارت میں کی جارہی جو کہ غیر منصف
 خدمت کا تعلق ہے میں نے تمام شوکار ٹونٹ میں 2015 کے قلمی تحریر ہے لفٹ ہے اور انکو اس کی بابت عرض تحریر ہے۔
 بندش کی جاسکتی ہے وہ میرے پتہ پر ہونی چاہئے اور اس کے بعد اسٹریٹ آباد پنج میڈرٹ داخلہ جہاں 2012 سے کر 2013 تک میں ڈیوٹی سرانجام دیتی رہی اور 2013 کو کچھ عارضی
 کے طلب کیا گیا

بجائے طلب کیا گیا
 بحال ہے بالدا انکو اس کی مذکورہ داخلہ دفتر فرمائی جاوے اور میری تنخواہ کا واکڈ ان کے اگھامات ماند فرمائے جائے
 حسیہ شاہین بی۔ ایس۔ ای۔ گوگنٹ گزنی راوی کول عدم بہار
 Hussaina shaheen
 2015

Handwritten signature and initials.



D²

Office of the District Education Officer Female
Haripur

Ph: 0995-613244

NO. 9129-

Date 22-9-2015

To

1. ✓ Mst. Haseena Shaheen PST GGPS Awan Mohra

Subject:

D/O Raja Fajee, Muhammad Mohallah Rajgan, Manikarai
ATTEND DEO (F) OFFICE FOR PERSONAL HEARING
Haripur

Memo,

You are hereby directed to attend the office of undersigned on dated 28-09-2015 at 9:00 AM for personnel hearing.


District Education Officer (F)
Haripur

Endst: No. 9129-34 /

Dated 22/09/2015

Copy to the.-

1. Director Elementary & Secondary Education Peshawar .
2. Nazim District Government Haripur .
3. Deputy Commissioner Haripur .
4. District Monitoring Officer (E&SE) Haripur.
5. Sub Divisional Education Officer (Female) Haripur .
6. Office File .

District Education Officer (F)
Haripur

not responsible
and registered
as to
tion
ery



Office of the District Education Officer Female Haripur

Ph: 0995-613244

NO. 14440 Date 11/12/2015

To.

1. Mst: Haseena Shaheen
GGPS Awan Mohra
Haripur

Subject:-

ATTEND DEO (F) OFFICE FOR PERSONAL HEARING

Memo.

You are hereby directed to attend the office of the undersigned on dated 17/12/2015 at 10: 00 A.M for personal hearing.

Mahul
11/12/15
District Education Officer (F)
Haripur

Received
Secretary
A.S.D.O
Haripur

میں نے ذیل Letter میں لوگال کے درجے
لائی گئی ہے۔ آپ کو اس کے بارے میں
Review letter کے لئے اطلاع ہے۔
Review letter اور اس کے بارے میں DEO کو
14/12/15 کو فوراً جاننا ہے۔

High Court
Summit 8-2015
A.S.D.O
Haripur
Suriya Top
A.S.D.O E&S
Circle Haripur

Saraly status in Yo Hassina Shaheen ^{PS}
GSPS Awan Mohra.

- 1) Ran In Active w.e.f. 1-6-2015. As per report of A.D.O. Circle, she is absent and not taken charge at GSPS Awan Mohra.
 - 2) Ran Active w.e.f. Aug: Sep: 2015/ she promised that I perform ~~her~~ ^{my} duties regularly.
 - 3) Ran again In Active w.e.f. 1-10-2015 to till date, she is not present and perform her duties at GSPS Awan Mohra. As per report of A.D.O. Circle.
-

Munir

9/12/2015 JLC

JLC No
SPECIAL
511-1000-1000
EO (F)
HOL

DBA number

BC No.

1 0 - 2 1 4 6

Name of Advocate NOMAN ULLAH

S.No 47837

وکالت نامہ



Head Clerk
District Bar Association
Abbottabad

بعدالت: سرمد شریف شاہین (ابیداً ماد بنیہ)
عنوان: حسدہ شاہین بنام: انجمن کسٹمز پاکستان
منجانب: سرمدہ / بیٹنڈر نوعیت مقدمہ: ایبل سرمدہ
باعث تحریر آنکہ

مقدمہ مندرجہ بالا عنوان میں اپنی طرف سے واسطے پیروی و جوابدہی برائے پیشی یا تصفیہ مقدمہ بمقام سرمدہ لچور کے لیے
صدر لجانہ اللہ اللہ دو کلبہ

کو حسب ذیل شرائط پروکیل مقرر کیا ہے کہ میں ہر پیشی پر خود یا بذریعہ مختار خاص روبرو عدالت حاضر ہوتا رہوں گا اور بروقت پکارے جانے مقدمہ وکیل صاحب موصوف کو اطلاع دے کر حاضر عدالت کروں گا۔ اگر پیشی پر مظہر حاضر نہ ہو اور مقدمہ میری غیر حاضری کی وجہ سے کسی طور پر میرے خلاف ہو گیا تو صاحب موصوف اس کے کسی طور پر ذمہ دار نہ ہوں گے نیز وکیل صاحب موصوف صدر مقام کچہری کے علاوہ کسی جگہ یا کچہری کے اوقات سے پہلے یا پیچھے یا بروز تعطیل پیروی کرنے کے ذمہ دار نہ ہوں گے اور مقدمہ کچہری کے علاوہ کسی سماعت ہونے پر یا بروز تعطیل یا کچہری کے اوقات کے آگے پیچھے پیش ہونے پر مظہر کو کوئی نقصان پہنچے تو اس کے ذمہ دار یا اس کے واسطے کسی معاوضہ کے ادا کرنے یا مختارہ کے واپس کرنے کے بھی صاحب موصوف ذمہ دار نہ ہوں گے۔ مجھ کو کل ساختہ پرواختہ صاحب موصوف مثل کردہ ذات منظور و مقبول ہوگا اور صاحب موصوف کو عرض دعویٰ یا جواب دعویٰ اور درخواست اجراءے ڈگری و نظر ثانی اپیل نگرانی و ہر قسم درخواست پر دستخط و تصدیق کرنے کا بھی اختیار ہوگا اور کسی حکم یا ڈگری کرانے اور ہر قسم کاروبار وصول کرنے اور رسید دینے اور داخل کرنے اور ہر قسم کے بیان دینے اور اس پر ثالثی و راضی نامہ و فیصلہ بر حلف کرنے اقبال دعویٰ دینے کا بھی اختیار ہوگا اور بصورت جانے میر نجات از کچہری صدر اپیل و برآمدگی مقدمہ یا منسوخی ڈگری یکطرفہ درخواست حکم انتہائی یا ترقی یا گرفتاری قبل از گرفتاری و اجراءے ڈگری بھی صاحب موصوف کو بشرط ادا ایلی علیحدہ مختارہ پیروی کا اختیار ہوگا۔ اور بصورت ضرورت صاحب موصوف کو یہ بھی اختیار ہوگا کہ مقدمہ مذکور یا اس کے کسی جزو کی کارروائی کے یا بصورت اپیل کسی دوسرے وکیل کو اپنے بجائے یا اپنے ہمراہ مقرر کریں اور اپنے وکیل کو بھی ہر امر میں وہی اور ویسے اختیارات حاصل ہوں گے جیسے صاحب موصوف کو حاصل ہیں اور دوران مقدمہ جو کچھ ہر جانب التوا پڑے گا وہ صاحب موصوف کا حق ہوگا۔ اگر وکیل صاحب موصوف کو کوئی پیشی یا کارروائی نہ کر دیں اور ایسی صورت میں میرا کوئی مطالبہ کرے گا تو صاحب موصوف کو پورا اختیار ہوگا کہ وہ مقدمہ کی پیروی نہ کریں اور ایسی صورت میں میرا کوئی مطالبہ کرے گا تو صاحب موصوف کے برخلاف نہیں ہوگا۔

مورخہ: 2017 / 2 / 16
سال ماہ دن

مضمون وکالت نامہ سن لیا ہے اور اچھی طرح سمجھ لیا ہے اور منظور ہے۔

حسدہ شاہین
Huseenashaheen